

امیر المؤمنین عَمَّان بن عَمَّان

حصہ اول

حیات و خدمات

حصہ دوم

اعترافات و جوابات



محمد الیاس گھمن



امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

حصہ اول

حیات و خدمات

حصہ دوم

اعتراضات و جوابات

مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ





ابنِ المومنین
عقباتِ یحییٰ

نام کتاب

محمد الیاس رحمانی

تالیف:

2024ء

تاریخ اشاعت

اول

بار اشاعت

ملنے کا پتہ

مکتبہ دارالایمان

87 جنوبی لاہور روڈ سرگودھا

0321 6353540

www.ahnafmedia.com

فہرست

پیش لفظ ----- 14

حیات و خدمات

- ولادت: 17
- نام و نسب: 17
- کنیت: 18
- لقب مبارک: 18
- حلیہ مبارک: 20
- خاندان (ازواج و اولاد) 21
- بوقت شہادت چار بیویاں: 23
- اسلام سے قبل سیرت و کردار: 23

عہد نبوی ﷺ میں ----- 25

- قبول اسلام: 25
- چوتھے مسلمان: 26
- قبول اسلام کے بعد مصائب: 27
- پہلا نکاح سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ ﷺ سے: 28
- خوبصورت ترین جوڑا: 29
- دوسرا نکاح سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ ﷺ سے: 29

- 31 پہلی ہجرت؛ ہجرت حبشہ
- 33 دوسری ہجرت؛ ہجرت حبشہ
- 35 تیسری ہجرت؛ ہجرت مدینہ منورہ
- 35 عقدِ موالات:
- 36 عقدِ موآخات:
- 36 عثمان و آوس بن ثابت رضی اللہ عنہما کے درمیان عقدِ موآخات:

38 ----- حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سخاوت

- 38 [1]: مسجد نبوی کی توسیع
- 40 [2]: میٹھے پانی کا کنواں

43 ----- غزوات میں شرکت

- 43 غزوہ بدر:
- 44 غزوہ احد:
- 46 غزوہ عطفان میں آپ ﷺ کے مدینہ میں نائب:
- 46 غزوہ ذات الرقاع میں آپ ﷺ کے مدینہ میں نائب:
- 47 صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان:
- 55 غزوہ تبوک میں سامانِ جہاد کی فراہمی:

60 ----- بارگاہِ خداوندی میں

- 60 آیت نمبر 1:

- آیت نمبر 2: 62
- آیت نمبر 3: 64
- آیت نمبر 4: 63
- آیت نمبر 5: 65

بارگاہِ نبوی ﷺ میں ----- 67

- (1): امت محمدیہ کا سب سے زیادہ باحیا انسان 67
- (2): فرشتوں کا عثمان رضی اللہ عنہ سے حیا کرنا 67
- (3): آپ ﷺ کا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت علی القتال کرنا 68
- (4): رسول اللہ ﷺ کا عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا ہم حیثیت قرار دینا 68
- (5): رسول اللہ ﷺ کا عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا ولی قرار دینا 69
- (6): بناتِ رسول اللہ ﷺ سے نکاح بذریعہ وحی الہی 70
- (7): چالیس بیٹیاں ہوتیں تو بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح: 70
- (8): آپ ﷺ کا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی کرنا 71
- (9): بارگاہِ نبوی سے جنت کی بشارت 71
- (10): عثمان رضی اللہ عنہ جنت میں نبی ﷺ کا رفیق 72
- (11): عثمان رضی اللہ عنہ کا ستر ہزار افراد کی شفاعت کرنا 73
- (12): رسول اللہ ﷺ کا عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتماد 73
- (13): عثمان رضی اللہ عنہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت: 74
- (14): حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آپ ﷺ سے مشابہت: 74

75 (15): عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والا عند اللہ مبغوض

76 ----- عہد صدیقی رضی اللہ عنہ میں

76 روم کی طرف پیش قدمی کے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے:

77 قحط سالی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت:

79 والی بحرین کے تقرر کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے:

80 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مدینہ میں نائب:

80 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتماد:

82 ----- عہد فاروقی رضی اللہ عنہ میں

82 اسلامی تقویم کے آغاز کے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تجویز:

84 بیت المال کی ریکارڈ بندی سے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تجویز:

85 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وظیفہ لینے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے:

86 امہات المؤمنین کی حفاظت پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تقرر:

86 حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان واسطہ:

87 استخلاف عثمان رضی اللہ عنہ کا اشارہ:

88 استخلاف عثمان رضی اللہ عنہ کے عملی مراحل:

94 استخلاف عثمان رضی اللہ عنہ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا دانشمندانہ کردار:

99 ----- اپنے عہد خلافت میں

99 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے طرز خلافت کی ایک جھلک:

- 1: پہلا خطبہ 99
- 2: والیان حکومت کے نام پہلا خط 100
- 3: خراج وصول کرنے والوں کے نام پہلا خط 101
- 4: سپہ سالاروں کے نام پہلا خط 102
- 5: عام رعایا کے نام ہدایات 103
- 6: فوجیوں کے وظائف میں اضافہ 103
- 7: ساحلی علاقوں کی مضبوطی 104
- 8: بچوں کے وظائف 104
- 9: فتوحات 106

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے طرزِ نقاہت کی ایک جھلک ----- 108

- 1: جمع قرآن کے مراحل اور عثمانی مصحف 108
- پہلا مرحلہ عہدِ نبوی ﷺ میں: 108
- دوسرا مرحلہ عہدِ صدیقی رضی اللہ عنہ میں: 110
- عہدِ نبوی اور عہدِ صدیقی کی کتابت قرآنی: 114
- تیسرا مرحلہ عہدِ عثمانی رضی اللہ عنہ میں: 115
- عہدِ صدیقی اور عہدِ عثمانی کی کتابت قرآنی: 118
- 2: مسئلہ اتباع سلف 119
- 3: ترک قراءۃ خلف الامام 120
- 4: جمعہ کی اذان ثانی 121

5: مسئلہ میں تراویح 122

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے طرزِ عبادت کی ایک جھلک ----- 123

1: ایک رکعت میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت 123

2: روزوں کی کثرت 124

3: مسلسل دس حج 124

4: صلہ رحمی 125

5: تواضع و انکساری 126

6: خشیت الہی 126

قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے دس اہم محرکات و اسباب ----- 128

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ ----- 135

دشمنوں کے سامنے اپنی حیثیت واضح فرمائی: 136

ایام محاصرہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مبارک جذبہ: 137

1: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ 137

2: حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ 138

3: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ 139

4: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ 140

5: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ 141

6: حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ 142

7: سیدہ نائلہ بنت الفرافصہ رضی اللہ عنہا 143

7: حسنین کریمین اور اولاد صحابہ رضی اللہ عنہم 143

عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری: 144

148 ----- حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت

شہادت کی پیش گوئی: 148

شہادت سے قبل ایک خواب: 149

151 ----- عبادت بوقت شہادت

1: تلاوت قرآن 151

2: روزہ 153

3: غلاموں کی آزادی 153

4: قیام امن کا حکم 153

5: دعا 154

155 ----- شہادت اور شہادت کے بعد

حسین کریمین رضی اللہ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈانٹ: 156

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وصیت نامہ: 156

نماز جنازہ: 157

بوقت شہادت فرشتوں کی دعائے مغفرت: 158

تکفین و تدفین: 159

- 159 شہادت کا دن، مہینہ اور سال:
- 160 کل عمر:
- 160 کل زمانہ خلافت:

اعتراضات و جوابات

اعتراض نمبر 1: غزوہ بدر میں شریک نہ ہونا ----- 162

جواب نمبر 1: 162

اعتراض نمبر 2: غزوہ احد میں میدان چھوڑ کر چلے جانا ----- 165

جواب: 167

اعتراض نمبر 3: بیعت رضوان میں شریک نہ ہونا ----- 170

جواب: 170

اعتراض نمبر 4: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو مارنا ----- 173

جواب نمبر 1: 173

جواب نمبر 2: 175

اعتراض نمبر 5: ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جلا وطن کرنا ----- 178

جواب نمبر 1: 179

جواب نمبر 2: 179

جواب نمبر 3: 181

اعتراض نمبر 6: مردہ بیوی کے ساتھ جماع کرنا ----- 188

جواب نمبر 1: 189

جواب نمبر 2: 189

اعتراض نمبر 7: سفر میں نماز مکمل پڑھنا ----- 195

جواب: 195

اعتراض نمبر 8: جمعہ کی اذان ثانی کا اضافہ کرنا ----- 197

جواب نمبر 1: 198

جواب نمبر 2: 199

اعتراض نمبر 9: مدینہ منورہ کی اجتماعی چراگاہ کو ذاتی استعمال میں لانا 201

جواب: 201

اعتراض نمبر 10: حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا الزامات کو درست سمجھنا -- 203

جواب: 205

اعتراض نمبر 11: محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کے قتل کرنے کا خط لکھنا -- 206

جواب: 207

اعتراض نمبر 12: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے قتل کا حکم دینا 209

جواب نمبر 1: 211

جواب نمبر 2: 212

جواب نمبر 3: 213

اعتراض نمبر 13: قرآن مجید کے نسخوں کو جلانے کا حکم دینا --- 218

جواب نمبر 1: 220

جواب نمبر 2: 222

جواب نمبر 3: 223

جواب نمبر 4: 224

اعتراض نمبر 14: حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے قصاص نہ لینا - 226

جواب: 227

اعتراض نمبر 15: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو قتل کرنا ----- 230

جواب نمبر 1: 230

جواب نمبر 2: 231

جواب نمبر 3: 232

اعتراض نمبر 16: حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو مارنا ----- 233

جواب نمبر 1: 233

جواب نمبر 2: 235

جواب نمبر 3: 236

اعتراض نمبر 17: حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے معاملہ میں نبوت کے طرز عمل کی مخالفت کرنا ----- 238

جواب نمبر 1: 239

جواب نمبر 2: 240

اعتراض نمبر 18: اپنے قریبی رشتہ داروں کو عہدے دینا ----- 242

جواب نمبر 1: 242

جواب نمبر 2: 246

جواب نمبر 3: 246

اعتراض نمبر 19: اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معزول کرنا ----- 248

جواب نمبر 1: 248

جواب نمبر 2: 249

جواب نمبر 3: 249

اعتراض نمبر 20: بیعت رضوان سماعِ صلوٰۃ و سلام کی نفی کی دلیل 250

جواب نمبر 1: 250

جواب نمبر 2: 250

جواب نمبر 3: 251

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عطا کیے ہیں۔ ان میں سب سے افضل حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم ہیں جن کا دور خلافت؛ تاریخ اسلامی کا ایک اہم اور تابناک دور ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے امت کو سنبھالا۔ ان حضرات نے امت کی فلاح و بہبود میں کارہائے نمایاں سرانجام دیں جو رہتی دنیا تک امت کے لئے مشعل راہ ہیں۔

خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ دوہرے داماد رسول ہیں۔ آپ کا شمار سابقین اسلام میں ہوتا ہے۔ بشارت نبوی کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ بالجنة میں داخل ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے امت کو ایک مصحف پر جمع کیا۔ حیاء و شرافت، خشیتِ الہی، انفاق فی سبیل اللہ، اہل ایمان کی مدد و نصرت، عبادت و ریاضت، تلاوت قرآن، امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کی طرف توجہ..... الغرض آپ کی زندگی کا ہر پہلو آپ کی شخصیت کی عظمت کی دلیل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تربیت کا عکاس ہے۔

زیر نظر کتاب ”خلیفہ سوم سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ“ میں ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو بیان کئے ہیں۔ کتاب دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلے حصہ میں آپ رضی اللہ عنہ کی حیات و خدمات جبکہ دوسرے حصہ میں آپ پر کئے گئے اعتراضات کے جوابات دلائل و براہین کی روشنی میں دیے گئے ہیں۔

ہم حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی حیات و خدمات پر الگ الگ کتب پیش کرنے جا رہے ہیں۔ زیر نظر کتاب اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ قارئین سے گزارش ہے کہ اگر اس ایڈیشن میں بھی کوئی غلطی دیکھیں تو مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کی جاسکے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین
بجاء النبی الکریم و صلی اللہ علیہ و علی آلہ و أصحابہ و أزواجه أجمعین۔

محتاج دعا

محمد ریاض لکھنؤ

جمعۃ المبارک؛ 23۔ جمادی الاخریٰ 1445ھ، 5۔ جنوری 2024ء

﴿ حصہ اول ﴾

حیات و خدمات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خليفة سوم سيدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ

ولادت:

حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر العسقلانی الشافعی رحمہ اللہ
(ت 852ھ) فرماتے ہیں:

وُلِدَ بَعْدَ الْفَيْلِ بِسِتِّ سِنِينَ عَلَى الصَّحِيحِ.

الاصابة في تمييز الصحابة: ج 2 ص 1238 ترجمہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: صحیح قول کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ واقعہ فیل کے چھ سال بعد (مکہ مکرمہ میں) پیدا ہوئے۔

نام و نسب:

امام اسماعیل بن محمد بن الفضل بن علی القرشی الاصہبانی رحمہ اللہ
(ت 535ھ) فرماتے ہیں:

عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ
يَجْتَمِعُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبْدِ مَنَافٍ.

سير السلف الصالحين: ص 68 ترجمہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: (والد کی طرف سے نسب اس طرح ہے) عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ (پانچویں پشت میں آپ کا سلسلہ) عبد مناف پر جا کر نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔

امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ بن احمد بن اسحاق بن موسیٰ بن مہران الاصہبانی
رحمہ اللہ (ت 430ھ) فرماتے ہیں:

وَأُمُّ عُمَانَ: أَرْوَى بِنْتُ كُرَيْزِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ
وَأُمُّهَا أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ وَهِيَ الْبَيْضَاءُ تَوَّأَمَةُ أَبِي رَسُولٍ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَّةٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

معرفۃ الصحابة: ج 1 ص 58 معرفة نسبه عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ (کی طرف سے نسب اس طرح ہے:
عثمان بن) اروی بنت کُرَیز بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس۔ اروی بنت کُرَیز کی والدہ
ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب بن ہاشم ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد
حضرت عبد اللہ کی جڑواں بہن ہیں۔ اس رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی
پھوپھی ہیں۔

فائدہ: اس نسبت سے آپ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے ہوئے۔
کنیت:

امام ابو عمرو یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر بن عاصم القرطبی رحمہ اللہ
(ت 463ھ) فرماتے ہیں:

يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَا عَمْرٍو كُنْيَتَانِ مَشْهُورَتَانِ لَهُ وَأَبُو عَمْرٍو
أَشْهُرُهُمَا.

الاستيعاب في معرفة الاصحاب: ص 504 ترجمہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دو کنیتیں مشہور ہیں؛ ایک ابو عبد اللہ اور
دوسری ابو عمرو؛ ان دو میں بھی زیادہ مشہور ”ابو عمرو“ ہے۔

لقب مبارک:

امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ بن احمد بن اسحاق بن موسیٰ بن مہران الاصبہانی
رحمہ اللہ (ت 430ھ) فرماتے ہیں:

عَنْ نَزَالِ بْنِ سَبْرَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَأَلَنَاهُ عَنْ
عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: ذَاكَ أَمْرٌ يُدْعَى فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى "ذَا النُّورَيْنِ" خَتَنَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتَيْهِ."

معرفۃ الصحابة: ج 1 ص 63 معرفۃ اندکان من صلی القبلتین

ترجمہ: حضرت نزال بن سبرہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایسی عظیم الشان ہستی ہیں کہ جنہیں آسمانوں میں ”ذوالنورین“ کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی (یکے بعد دیگرے) دو بیٹیوں کے شوہر ہیں۔

امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ بن احمد بن اسحاق بن موسیٰ بن مہران الاصبہانی رحمہ اللہ (ت 430ھ) فرماتے ہیں:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أَبَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ
الْجُعْفَى رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: قَالَ لِي أَبِي: يَا بُنَيَّ! تَدْرِي لِمَ سُمِّيَ عُثْمَانُ "ذَا النُّورَيْنِ"؟
لَأَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ ابْنَتَيْ نَبِيِّ مِنْ لَدُنْ أَكْثَرِ إِلَى قِيَامِهِ السَّاعَةِ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ.
معرفۃ الصحابة: ج 1 ص 62 معرفۃ اندکان من صلی القبلتین

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر بن ابان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حسین بن علی الجعفی رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے والد (علی الجعفی رحمہ اللہ) نے مجھ سے پوچھا: بیٹے! کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ”ذوالنورین“ کیوں کہا جاتا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سوائے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے کسی نے بھی کسی پیغمبر کی (یکے بعد دیگرے) دو بیٹیوں سے نکاح نہیں کیا۔

حلیہ مبارک:

1: خوبصورتی

امام ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن اسحاق ابن منندہ العبدی الاصبہانی رحمہ اللہ (ت 470ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

وَكَانَ رَجُلًا لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ حَسَنَ الْوَجْهِ كَثِيرَ اللَّحْيَةِ
أَسَمَرَ اللَّوْنِ عَظِيمَ الْكَرَادِيْسِ بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكَبَيْنِ.

المستخرج من كتب الناس: ج 1 ص 150 تحت ذكر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ معتدل قد والے تھے، نہ بہت زیادہ لمبے نہ پست قد، خوبصورت، گھنی داڑھی والے، گندمی رنگ والے، مضبوط جسم اور کشادہ سینہ کے مالک تھے۔

2: مشابہت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام

امام ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن اسحاق ابن منندہ العبدی الاصبہانی رحمہ اللہ (ت 470ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنِ ابْنِ حُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا نُشَبِّهُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَبِيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

المستخرج من كتب الناس: ج 1 ص 150 تحت ذكر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم عثمان بن عفان (رضی اللہ عنہ) کو اپنے والد حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے مشابہ سمجھتے ہیں۔

3: مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

امام عبد الرحمن بن ابی بکر جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ (ت 911ھ)

روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ قَالَ لَهَا: "إِنَّ بَعْلَكَ أَشَبَّهُ النَّاسَ بِجَدِّكَ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِيكَ مُحَمَّدٍ."

تاریخ الخلفاء: ص 120 الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا تو ان سے فرمایا کہ بیٹی! آپ کے شوہر آپ کے دادا حضرت ابراہیم (علیہ السلام) اور آپ کے والد محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بہت ملتے جلتے ہیں۔

فائدہ: اس روایت کو علامہ شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن حجر الہیثمی المکی رحمہ اللہ (ت 974ھ) نے اپنی کتاب ”الصواعق المحرقة“ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حسن و جمال کے تذکرہ کے ذیل میں ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت اور سابقہ روایت جن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کا ذکر ہے اس سے مراد؛ صورت و حلیہ میں مشابہت ہے۔

خاندان (ازواج و اولاد)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یکے بعد دیگرے کل 8 شادیاں کی ہیں۔ (بیک وقت چار سے زائد نہیں تھیں) اور سب کی سب اسلام لانے کے بعد کی ہیں۔
امام ابو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن الجوزی رحمہ اللہ (ت 597ھ) نقل کرتے ہیں:

كَانَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ: عَبْدُ اللَّهِ مِنْ رُقَيَّةَ وَعَبْدُ اللَّهِ الْأَصْغَرُ أُمُّهُ فَاحْتَتَّ

بْنْتُ غَزْوَانَ وَعَمْرُو وَحَالِدٌ وَأَبَانٌ وَعَمْرُو وَمَرْيَمُ أُمُّهُمْ أُمُّ عَمْرٍو بْنْتُ جُنْدَبٍ
مِنَ الْأَزْدِ وَالْوَلِيدُ وَسَعِيدٌ وَأُمُّ سَعِيدٍ أُمُّهُمْ فَاطِمَةُ بْنْتُ الْوَلِيدِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ
أُمُّهُ أُمُّ الْبَنَيْنِ بْنْتُ عَيْنَةَ بَنِي حِصْنٍ وَعَائِشَةُ وَأُمُّ أَبَانَ وَأُمُّ عَمْرٍو أُمُّهُنَّ رَمْلَةُ
بْنْتُ شَيْبَةَ بَنِي رَبِيعَةَ وَمَرْيَمُ أُمُّهَا تَائِلَةُ بْنْتُ الْفَرَاغَةِ وَأُمُّ الْبَنَيْنِ بْنْتُ
عُثْمَانَ أُمُّهَا أُمُّ وَلَدٍ.

تفہیم نوم اہل الاثر فی عیون التاریخ والسیر: ص 109، 110 تحت ذکر اولادہ

نوٹ: آسانی کے پیش نظر ترجمہ کو درج ذیل جدول میں ذکر کرتے ہیں۔ آپ کے
9 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔

رقم	زوجہ کا نام	بیٹے	بیٹیاں
1	سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ ﷺ	عبد اللہ	
2	سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ ﷺ		
3	سیدہ فاختہ بنت غزوآن رضی اللہ عنہا	عبد اللہ الاصغر	
4	سیدہ ام عمرو بنت جندب الازدیہ رضی اللہ عنہا	عمرو، خالد، ابان، عمر	مریم
5	سیدہ فاطمہ بنت ولید بن عبد شمس بن مغیرہ المخزومیہ رضی اللہ عنہا	ولید، سعید	ام سعید
6	سیدہ ام البنین بنت عیینہ بن حصن الفرزاریہ رضی اللہ عنہا	عبد الملک	
7	سیدہ رملہ بنت شبیبہ بن ربیعہ الامویہ رضی اللہ عنہا		عائشہ، ام ابان، ام عمرو
8	سیدہ نائلہ بنت فرافصہ الکلبیہ رضی اللہ عنہا		مریم

☆	ام ولد (نام معلوم نہیں ہو سکا)	ام البنین
---	--------------------------------	-----------

فائدہ:

”ام ولد“ اس باندی کو کہتے ہیں کہ جب وہ بچہ یا بچی کو جنم دے اور مالک اس کو اپنی اولاد تسلیم کر لے تو وہ باندی مالک کی وفات کے بعد خود بخود آزاد ہو جاتی ہے۔

بوقت شہادت چار بیویاں:

حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ (ت 774ھ) فرماتے ہیں:

وَقُتِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُ أَرْبَعُ نَائِلَةٍ وَرَمْلَةٍ وَأُمُّ الْبَنِينَ وَفَاحِشَةٌ.

البدایہ والنہایہ لابن کثیر: ج 4 ص 234 ذکر زواجہ وبنیہ وبناتہ رضی اللہ عنہم

ترجمہ: جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اس وقت آپ کے عقد میں چار بیویاں موجود تھیں؛ سیدہ نائلہ، سیدہ رملہ، سیدہ ام البنین اور سیدہ فاختہ رضی اللہ عنہن۔

اسلام سے قبل سیرت و کردار:

حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ (ت 774ھ) نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

وَلَا زَنَيْتُ وَلَا سَرَقْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا تَعَتَيْتُ وَلَا تَمَنَيْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا مَسَسْتُ فَرْجِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

البدایہ والنہایہ لابن کثیر: ج 4 ص 194 ذکر حصر امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: میں نے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں نہ کبھی زنا کیا، نہ کبھی چوری کی، نہ گانا گایا، نہ کبھی مسلمان ہونے کے بعد دین سے پھرنے کی تمنا کی اور نہ ہی اپنے

دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوا جب سے میں نے اس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔

امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ بن احمد بن اسحاق بن موسیٰ بن مہران الاصبہانی رحمہ اللہ (ت 430ھ) نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

فَوَاللّٰهِ مَا زَنَيْتُ فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَلَا اِسْلَامٍ وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ.

معرفۃ الصحابة: ج 1 ص 75 معرفۃ ماسند عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ: اللہ کی قسم! میں نے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں کبھی زنا نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو ناحق قتل کیا۔

عہد نبوی ﷺ میں

قبول اسلام:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ کی خالہ سُعدی بنت گریز نے اسلام کی دعوت دی۔

حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ (ت 774ھ) روایت نقل فرماتے ہیں:

قَالَ عُثْمَانُ: فَأَنْطَلَقْتُ مُفَكِّرًا فَلَقَيْتَنِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا عُثْمَانُ إِنَّكَ لَرَجُلٌ حَازِمٌ مَا يَخْفَى عَلَيْكَ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ مَا هَذِهِ الْأَصْنَامُ الَّتِي يَعْبُدُهَا قَوْمُنَا؟ أَلَيْسَتْ مِنْ حِجَارَةٍ صَمٍّ لَا تَسْمَعُ وَلَا تُبْصِرُ وَلَا تَنْفَعُ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، وَاللَّهِ إِنَّهَا لَكَذَلِكَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ صَدَقْتُكَ خَالَاتُكَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ بِرِسَالَتِهِ هَلْ لَكَ أَنْ تَأْتِيَهُ؟ فَاجْتَمَعْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ أَجِبِ اللَّهَ إِلَى جَنَّتِهِ، فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ وَإِلَى خَلْقِهِ. قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا تَمَّا لَكَتُ حِينَ سَمِعْتُ قَوْلَهُ أَنْ أَسْلَمْتُ وَشَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

البدایہ والنہایہ: ج 4 ص 214 بعض الاحادیث الواردة فی فضائل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے (اپنی خالہ کی دعوت اسلام پر) غور و فکر کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی، میں نے آپ کو وہ سارا واقعہ بتایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا: پیارے عثمان! آپ ایک سمجھ دار انسان ہیں، آپ پر یہ حق مخفی نہیں اور وہ باطل (بھی مخفی نہیں) جو کہ ہماری قوم بتوں کی عبادت کی صورت میں کر رہی ہے۔ (آپ سوچیے) کیا

یہ (بے جان بت) پتھر نہیں ہیں؟ جو نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: بالکل یہ بت اسی طرح ہیں (جیسے آپ نے بیان کیا) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی خالہ (سُعدی بنت گُریز) نے بالکل سچ کہا۔ محمد بن عبد اللہ: اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کیا خیال ہے ان کی خدمت میں آپ کو حاضر ہونا چاہیے؟ (یا نہیں) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: عثمان! اللہ کی جنت کو قبول کرو (اس کی صورت یہ ہے کہ) میں اللہ کا رسول ہوں جو آپ کی طرف اور پوری کائنات کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم! جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو بغیر کسی تاخیر کے اسلام قبول کیا اور اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

فائدہ:

وَجَّحْ... صِغَةُ تَرْجُمٍ، إشفاق اور تعجب۔ دوسرے کو رحمت و شفقت کا مستحق سمجھ کر یا کسی بات پر تعجب کرتے ہوئے کلام کرنا۔ کبھی کبھار لفظ ”وَجَّحْ“ ویل (ہلاکت) کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

چوتھے مسلمان:

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ (ت 360ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو الْمَعَاذِرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَوْرٍ النَّهْمِيَّ

يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي لَرَابِعُ أَرْبَعَةٍ فِي الْإِسْلَامِ.

المعجم الكبير للطبرانی: ج 1 ص 49 رقم الحديث 122

ترجمہ: حضرت یزید بن عمرو المعافری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نے ابو ثور النخعی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہوئے سنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اسلام قبول کرنے والے (مردوں میں) چوتھے نمبر پر ہوں۔

فائدہ: مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کیا اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔

قبول اسلام کے بعد مصائب:

امام ابو الفرج نور الدین علی بن ابراہیم بن احمد الحلبي رحمہ اللہ (ت 1044ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

لَمَّا أَسْلَمَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَخَذَهُ عُمَةُ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ وَالِدَ مَرْوَانَ فَأَوْثَقَهُ كِتَافًا وَقَالَ: تَرَعَّبُ عَنْ مِلَّةِ آبَائِكَ إِلَى دِينِ مُحَمَّدٍ؟ وَاللَّهِ! لَا أَحُلُّكَ أَبَدًا حَتَّى تَدَّعَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ. فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَاللَّهِ! لَا أَدْعُهُ أَبَدًا وَلَا أَفَارِقُهُ فَلَمَّا رَأَى الْحَكَمُ صَلَابَتَهُ فِي الْحَقِّ تَرَكَهُ.

السيرة الحلبية: ج 1 ص 394 باب ذكراول الناس ايمانا به ﷺ

ترجمہ: جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو آپ کے چچا حکم بن ابی العاص بن امیہ نے جو کہ مروان بن حکم کے والد ہیں، آپ کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا اور کہا: تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر محمد (ﷺ) کے دین کی اتباع

کرتے ہو؟ اللہ کی قسم! میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا جس پر ابھی قائم ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں کبھی اس دین کو نہیں چھوڑوں گا اور نہ اس سے جدا ہوں گا۔ جب چچا حکم بن ابی العاص نے آپ کی حق پر قائم رہنے کے لیے پختگی دیکھی تو آپ کو چھوڑ دیا۔

پہلا نکاح سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔
حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ
(ت 774ھ) روایت فرماتے ہیں:

وَأَمَّا رُقِيَّةُ فَكَانَ قَدْ تَزَوَّجَهَا أَوَّلًا ابْنُ عَمِّهَا عُنَيْبَةُ بْنُ أَبِي لَهَبٍ كَمَا تَزَوَّجَ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ أَخُوهُ عُنَيْبَةُ بْنُ أَبِي لَهَبٍ ثُمَّ طَلَقَاهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَمَا بَعْضَةً فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۖ سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذَا تَلَهَّبَ ۚ وَامْرَأَتُهُ ۖ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۚ﴾ فَتَزَوَّجَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُقِيَّةَ.

البدایۃ والنہایۃ لابن کثیر: ج 3 ص 321 فی ذکر اولادہ علیہ وعلیہم السلام

ترجمہ: سیدہ رقیہ (بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کا نکاح اولاً آپ کے (والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے) چچا زاد عننبہ بن ابی لہب سے ہوا جیسا کہ آپ کی بہن سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح اولاً آپ کے (والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے) چچا زاد عننبہ بن ابی لہب سے ہوا۔ رخصتی سے قبل ہی اُن دونوں (بھائیوں) نے اِن دونوں (بہنوں) کو طلاق دے دی۔ وجہ وہ بغض تھا جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ہوا جب سورۃ الہلب نازل ہوئی۔ چنانچہ (اس کے بعد) حضرت رقیہ

رضی اللہ عنہا سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شادی کی۔

خوبصورت ترین جوڑا:

امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر الانصاری الخزرجی شمس الدین القرطبی رحمہ اللہ (ت 671ھ) نقل کرتے ہیں:

وَكَانَتْ نِسَاءً قَرِيْشٌ يَقْلَنَ حِينَ تَزَوَّجَهَا عُثْمَانُ:

ترجمہ: جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تو قریشی خواتین یوں کہا کرتی تھیں:

أَحْسَنُ شَخْصَيْنِ رَأَى إِنْسَانُ

خوبصورت جوڑا جسے کسی انسان نے دیکھا ہے

رُقِيَّةٌ وَ بَعْلُهَا عُثْمَانُ

وہ رقیہ اور ان کے شوہر عثمان ہیں

الجامع لاحکام القرآن للقرطبی: ج 2 ص 2505 تحت سورة الاحزاب، رقم الآیة: 59

دوسرا نکاح سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے:

حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔

امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل البغدادی رحمہ اللہ (ت 241ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ أَزْوَجَ كَرِيْمَتِي عُثْمَانَ."

فضائل الصحابة: ص 628 رقم الحديث 837 باب فضائل عثمان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل نے میری طرف یہ وحی فرمائی کہ میں اپنی دو صاحبزادیوں (سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما) کی شادی عثمان سے کروں۔

امام ابو بکر محمد بن الحسین بن عبد اللہ الآجُرّی البغدادی رحمہ اللہ (ت 360ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا زَوَّجْتُ عُثْمَانَ أُمَّ كُلْثُومٍ إِلَّا بِوَحْيٍ مِنَ السَّمَاءِ.

الشریعة للآجری: ص 519 رقم الحدیث 1464 ذکر تزویج عثمان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے (اپنی صاحبزادی) ام کلثوم کی شادی عثمان (رضی اللہ عنہ) سے وحیِ سماوی کی بنیاد پر کی ہے۔

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی (ت 360ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ عُثْمَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ! هَذَا جَبْرِيلُ يُخْبِرُنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ زَوَّجَكَ أُمَّ كُلْثُومٍ عَلَى مِثْلِ صَدَاقِ رُقَيْيَةَ.

المعجم الكبير للطبرانی: ج 9 ص 384، 385 رقم الحدیث 18495

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی (ایک طویل حدیث میں) ہے کہ مسجد کے دروازے کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عثمان! یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اللہ عزوجل نے آپ کا نکاح (میری بیٹی) ام کلثوم سے

اتنے ہی مہر پر کر دیا ہے جتنا (میری بیٹی) رقیہ کا تھا۔

پہلی ہجرت؛ ہجرت حبشہ

امام ابو محمد عبد الملک بن ہشام المعافری رحمہ اللہ (ت 213ھ یا 217ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُصِيبُ أَصْحَابَهُ مِنَ الْبَلَاءِ وَمَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْعَافِيَةِ بِمَكَانِهِ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الْبَلَاءِ قَالَ لَهُمْ: لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَإِنْ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ وَهِيَ أَرْضُ صَدِيقِي حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ. فَخَرَجَ عِنْدَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ..... فَكَانَتْ أَوَّلَ هِجْرَةٍ كَانَتْ فِي الْإِسْلَامِ. وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ ابْنُ قُصَيٍّ بْنُ كِلَابٍ بْنُ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ بْنُ لُؤَيٍّ بْنِ غَالِبٍ بْنِ فِهْرِ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ مَعَهُ أَمْرٌ أَنَّهُ رُقِيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

السيرة النبوية لابن هشام: ج 1 ص 321، 322 ذکر الهجرة الاولى الى الحبشة

ترجمہ: امام ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مصائب اور کڑی آزمائشوں کو دیکھا جو آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم پر آ رہی تھیں اگرچہ آپ خود اللہ (مسبب الاسباب) کی حفاظت اور (تحت الاسباب) چچا ابوطالب کی وجہ سے (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بنسبت) عافیت میں تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو بھی محفوظ رکھ سکتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا: آپ

لوگ سرزمین حبشہ کی طرف (ہجرت کر کے) چلے جائیں کیونکہ وہاں ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ سچے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اس آزمائش سے چھٹکارا پیدا فرمادے جس میں اب گرفتار ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی ہجرت تھی اور مسلمانوں میں سے سب سے پہلے جس شخص نے ہجرت کی وہ بنو امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر کے چچم و چراغ حضرت عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ رضی اللہ عنہ تھے، آپ کے ہمراہ آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں۔

فائدہ:

ہجرت حبشہ؛ اسلام کی پہلی ہجرت اور اس کے پہلے مہاجر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔

اشکال:

مکہ مکرمہ میں کھٹن حالات کا سامنا تھا۔ ان حالات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں چھوڑ کر کیسے ہجرت کی؟ یہ حالات تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے تھے نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں چھوڑ کر جانے کے تھے۔

جواب:

مکہ میں جن کھٹن حالات کا سامنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تھا آپ صلی

اللہ علیہ وسلم ان سے مامون تھے۔ ایک تو خصوصی حفاظتِ خداوندی آپ کو میسر تھی اور دوسرا آپ کے چچا ابوطالب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی ایذاؤں سے محفوظ تھے جبکہ ایسی حفاظت و عافیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو میسر نہ تھی۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں رہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی خطرہ نہیں تھا، ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اس طرح کی حفاظت میں رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہ تھا اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فرمانے پر ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں رہ گئے۔

امام ابو محمد عبد الملک بن ہشام المعافری رحمہ اللہ (ت 213ھ یا 217ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُصِيبُ أَصْحَابَهُ مِنَ الْبَلَاءِ وَمَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْعَاقِبَةِ بِمَكَانِهِ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ عَمَلِهِ أُنِي ظَالِمٌ وَأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْتَعَهُمْ جَنَاهُ مِنْ الْبَلَاءِ.

السيرة النبوية لابن هشام: ج 1 ص 321 ذكر الهجرة الاولى الى الحبشة

ترجمہ: ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مصائب اور کڑی آزمائشوں کو دیکھا جو آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم پر آرہی تھیں اگرچہ آپ خود اللہ (مبب الاسباب) کی حفاظت اور (تحت الاسباب) چچا ابوطالب کی وجہ سے (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بنسبت) عافیت میں تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو بھی محفوظ رکھ سکتے۔

دوسری ہجرت: ہجرت حبشہ

امام عز الدین عبد العزیز بن محمد بن ابراہیم ابن جماعہ الکلتانی الدمشقی رحمہ

اللہ (ت 767ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

وَأَقَامُوا بِالْحَبَشَةِ فِي أَحْسَنِ جَوَارٍ فَبَلَغَهُمْ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَسْلَمُوا
فَرَجَعُوا إِلَى مَكَّةَ.... فَأَذِنَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُرُوجِ إِلَى
أَرْضِ الْحَبَشَةِ مَرَّةً ثَانِيَةً. فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَهَجَرْتُنَا الْأُولَى وَهَذِهِ إِلَى
النِّجَاشِيِّ، وَلَسْتُ مَعَنَّا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتُمْ
مُهَاجِرُونَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى. لَكُمْ هَاتَانِ الْهَجْرَتَانِ بَجَمِيعًا. فَقَالَ عُثْمَانُ: فَحَسْبُنَا يَا
رَسُولَ اللَّهِ! وَهَاجَرُوا إِلَى الْحَبَشَةِ.

المختصر الكبير في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ج 1 ص 37 تحت ذكر الهجرة إلى الحبشة

ترجمہ: جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے وہ وہاں اچھے ماحول میں زندگی گزار رہے
تھے (ایک روز کہیں سے) انہیں یہ خبر ملی کہ کفار مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ (خبر
سننے کے بعد) وہ لوگ واپس مکہ کی جانب لوٹے.... (یہاں آکر معلوم ہوا کہ جو خبر پہنچی
تھی وہ درست نہیں تھی بلکہ مکہ کے کفار و مشرکین اب بھی اسلام دشمنی پر ویسے ہی
قائم ہیں۔ ان لوگوں نے دوبارہ عرض کی کہ ہمیں حبشہ جانے کی اجازت دی جائے)
..... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت
دے دی۔ اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عرض کی: اے اللہ کے رسول!
ہماری پہلی اور یہ دوسری ہجرت شاہ حبشہ نجاشی کی طرف ہو رہی ہے لیکن آپ ہمارے
ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ لوگ اللہ اور میری
طرف ہجرت کرنے والے ہیں یہ دونوں ہجرتیں آپ کے حق میں عند اللہ
وعند الرسول مقبول ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے اللہ کے رسول!
ہمیں یہی بات کافی ہے (کہ آپ نے اس ہجرت کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف
ہجرت قرار دیا ہے) اور پھر حبشہ کی جانب ہجرت کی۔

تیسری ہجرت؛ ہجرتِ مدینہ منورہ

حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر العسقلانی الشافعی رحمہ اللہ
(ت 852ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

وَكَانَ عُمَانُ مِمَّنْ رَجَعَ مِنَ الْحَبَشَةِ فَهَاجَرَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ
زَوْجَتُهُ رُقَيْيَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فتح الباری شرح صحیح البخاری: ج 7 ص 264 باب مقدم النبی ﷺ و اصحابہ المدینہ
ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو حبشہ سے واپس
مکہ لوٹے اور پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ (اس ہجرت میں) ان کے ساتھ
ان اہلیہ سیدہ رقیہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں۔

امام ابو الحسن عز الدین علی بن ابی الکرم محمد بن محمد الشیبانی الجزری ابن الاثیر
رحمہ اللہ (ت 630ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

وَهَاجَرَا كِلَاهُمَا إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ الْهَجْرَتَيْنِ ثُمَّ عَادَا إِلَى مَكَّةَ
وَهَاجَرَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابۃ: ج 3 ص 318 ترجمہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ
ترجمہ: حضرت عثمان اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہما دونوں نے حبشہ کی طرف دو مرتبہ
ہجرت کی ہے، پھر وہاں سے مکہ واپس آئے اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔

عقدِ موالات:

عرب میں ایک طریقہ ”عقدِ موالات“ کا رائج تھا یعنی غیر قبیلہ کا کوئی آدمی
کسی اور قبیلہ میں پہنچتا تو معاہدہ کر کے اس قبیلہ میں داخل ہو جاتا۔ اس کے بعد اسی
قبیلہ کی طرف منسوب ہوتا۔ اس کے بعد وہ شخص صلح اور جنگ میں اسی قبیلہ کے ساتھ
شریک رہتا۔ اس شخص کے مرنے کے بعد اس کا ترکہ بھی اسی قبیلہ میں تقسیم کیا جاتا۔

اس عقدِ موالات میں حق و انصاف کے بجائے اسی قبیلہ کی طرف داری اور حمایت ضروری ہوتی تھی خواہ قبیلہ والے غلط، نا انصافی بلکہ ظلم بھی کر رہے ہوں۔ اسلام نے اسے ختم فرمادیا اور یہ تعلیم دی کہ ہر حال میں حق اور انصاف کا ساتھ دو یہاں تک کہ اگر وہ تمہارے اپنوں کے خلاف ہی ہو۔

عقدِ موآخات:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقدِ موالات کے بجائے عقدِ موآخات کا طریقہ جاری فرمایا اور افراد کی ہم مزاجی کا خیال فرماتے ہوئے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا نام بنام بھائی قرار دیا۔

عثمان و اوس بن ثابت رضی اللہ عنہما کے درمیان عقدِ موآخات:

امام ابو محمد عبد الملک بن ہشام المعافری رحمہ اللہ (ت 213ھ یا 217ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

وَنَزَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى أَوْسِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ أُنْجَى حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ فِي دَارِ بَنِي النَّجَّارِ فَلِذَلِكَ كَانَ حَسَّانُ يُحِبُّ عُثْمَانَ وَيَكِينُهُ حِينَ قُتِلَ.

السيرة النبوية لابن هشام: ج 1 ص 479 منزل عثمان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ (جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو) بنو نجار کے محلے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت اوس بن ثابت بن منذر رضی اللہ عنہ کے پاس آکر ٹھہرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ آپ پر بہت روئے۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن سعد بن منیع البغدادی رحمہ اللہ (ت 230ھ)

روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَوْسِ بْنِ ثَابِتٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ.

الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ج 3 ص 382 ترجمہ: اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ

ترجمہ: موسیٰ بن محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ اپنے والد محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن ثابت اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کے درمیان عقد مواخت قائم فرمایا۔

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سخاوت

اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے خوب نوازا۔ آپ اسے راہِ خدا میں بڑی فیاضی سے خرچ فرماتے۔ مشکل حالات میں آپ نے مسلمانوں کے لیے ان کی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کیا۔ مثلاً مسجد کی توسیع کرائی، بیٹھے پانی کا کنواں وقف کیا، غزوات میں شرکت اور اس میں اسلحہ، سواریاں اور فوجی راشن کا بندوبست کیا۔

[1]: مسجد نبوی کی توسیع

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع کا ارادہ کیا۔ ایک انصاری کی زمین مسجد کے قریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زمین خریدنے کی بات کی تو انہوں نے عذر کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان انصاری سے بات کی اور دس ہزار درہم میں وہ زمین خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جسے مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا۔ چنانچہ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی (ت 360ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُصَاحِبِ الْبُقْعَةِ الَّتِي زِيدَتْ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ صَاحِبُهَا رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَكَ بِهَا بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ". فَقَالَ: لَا. فَجَاءَ عُثْمَانُ، فَقَالَ لَهُ: "لَكَ بِهَا عَشْرَةُ آلَافٍ فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اشْتَرِ مِنِّي الْبُقْعَةَ الَّتِي اشْتَرَيْتُهَا مِنَ الْأَنْصَارِيِّ، فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنِّي اشْتَرَيْتُهَا بِعَشْرَةِ

آلَافِ دِرْهَمٍ، فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَيْتَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَوَضَعَ لِبَيْتِهِ، ثُمَّ دَعَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَوَضَعَ لِبَيْتِهِ، ثُمَّ جَاءَ عُمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَوَضَعَ لِبَيْتِهِ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: ضَعُوا فَوَضَعُوا.

المعجم الكبير للطبرانی: ج 1 ص 146 رقم الحديث 522

ترجمہ: زیاد بن ابوالملیح اپنے والد ابوالملیح (عامر بن اسامہ بن عمیر) سے اور وہ اپنے والد (حضرت اسامہ بن عمیر بن عامر الہذلی رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری صحابی سے جن کی زمین مسجد نبوی کے قریب تھی۔ جسے بعد میں مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ فرمایا کہ یہ زمین ہمیں دے دو، اس کے بدلے تمہیں جنت میں گھر ملے گا۔ اس انصاری نے معذرت کی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس انصاری کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں فرمایا: میں اس زمین کے بدلے تمہیں دس ہزار درہم دیتا ہوں (تم مجھے یہ ٹکڑا فروخت کر دو۔ چنانچہ وہ انصاری راضی ہوا) تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہ زمین ان سے خرید لی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ! آپ مجھ سے وہ زمین کا ٹکڑا خرید لیں جو آپ اس انصاری سے خریدنا چاہتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے وہ ٹکڑا جنت کے ایک گھر کے بدلے میں خرید لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں نے یہ ٹکڑا دس ہزار درہم کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (زمین کے اس ٹکڑے کو مسجد میں شامل کرتے ہوئے) ایک اینٹ رکھی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا تو انہوں نے بھی ایک اینٹ رکھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا تو انہوں نے بھی ایک اینٹ رکھی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے بھی ایک اینٹ رکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے بقیہ لوگوں سے فرمایا کہ وہ بھی ایک ایک اینٹ رکھیں۔ چنانچہ لوگوں نے بھی ایک ایک اینٹ رکھی۔

[2]: بیٹھے پانی کا کنواں

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ (ت 360ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِشْرِ بْنِ بَشِيرٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَهَا قَدِيمَ الْمَهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ اسْتَنْكَرُوا الْمَاءَ وَكَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا رُومَةٌ وَكَانَ يَبِيعُ مِنْهَا الْفَزْبَةَ بِمُدٍّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِعْنِيهَا بِعَيْنٍ فِي الْجَنَّةِ" فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَيْسَ لِي، وَلَا لِعِيَالِي غَيْرُهَا، لَا أَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَشْتَرَاهَا بِخُمْسَةِ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَجْعَلُ لِي مِثْلَ الَّذِي جَعَلْتَهُ لَهُ عَيْنًا فِي الْجَنَّةِ إِنْ أَشْتَرَيْتُهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: قَدْ أَشْتَرَيْتُهَا وَجَعَلْتُهَا لِلْمُسْلِمِينَ.

المعجم الكبير للطبرانی: ج 1 ص 316 رقم الحديث 1212

ترجمہ: حضرت ابوسلمہ بشر بن بشیر اسلمی اپنے والد حضرت بشیر اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب مہاجرین (مکہ سے ہجرت کر کے) مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں کے پانی (کے ذائقے) کو کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ قبیلہ بنو غفار کے ایک شخص کا بیٹھے پانی کا کنواں تھا جس کا نام رومہ تھا۔ وہ ایک مشکیزہ ایک مد (796.068 گرام) غلے کے بدلے میں فروخت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ یہ کنواں جنت کے چشمے کے بدلے ہمیں بیچ دو (یعنی راہ خدا میں وقف کر دو) وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول! میرے اور میرے گھر والوں کے لیے اس کے علاوہ

کوئی اور (ذریعہ روزگار) نہیں ہے۔ اس لیے میرے لیے اسے وقف کرنا ممکن نہیں۔ یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں 35 ہزار درہم کا خرید لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: اے اللہ کے رسول! اگر میں یہ کنواں خرید لوں (اور راہ خدا میں وقف کر دوں) تو کیا آپ مجھے اس کے بدلے جنت میں ایک چشمہ (ملنے کی ضمانت) دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول! (میں آپ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ) میں نے وہ کنواں خرید کر (بطور خاص) مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔

حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر العسقلانی الشافعی رحمہ اللہ (ت 852ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَخْفِزُ بِئُرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَخَفَرَهَا عُثْمَانُ.

فتح الباری شرح صحیح البخاری: ج 7 ص 54 باب مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص رومہ نامی کنواں (خرید کر راہ خدا میں) وقف کرے گا (اس کے بدلے میں) اس کے لیے جنت ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے وہ کنواں (خرید کر راہ خدا میں) وقف کر دیا۔

فائدہ:

المعجم الکبیر للطبرانی کی مذکورہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کنواں بنو غفار کے ایک مسلمان شخص کا تھا لیکن ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ یہ کنواں ایک یہودی کا تھا۔ حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی الحنفی (ت 855ھ) لکھتے ہیں:

قَوْلُهُ (بِئُرَ رُومَةَ) بِإِضَافَةٍ بِئُرٍ إِلَى رُومَةَ بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْوَاوِ

وَبِالْإِيمِ رُومَةَ عَلَّمَ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ وَهُوَ رُومَةُ الْغِفَارِيِّ وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ:
 بِئْرُ رُومَةَ كَانَتْ لِيَهُودِيٍّ وَكَانَ يَقْفِلُ عَلَيْهَا بِقِفْلٍ وَيَغِيبُ فِيْهَا النَّاسُ الْمُسْلِمُونَ
 لِيَسْتَرْبُوا مِنْهَا فَلَا يَجِدُونَهُ حَاضِرًا فَيَتَرَجَعُونَ بِغَيْرِ مَاءٍ فَشَكَ الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ
 فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِهَا وَيَمْنَحُهَا لِلْمُسْلِمِينَ وَيَكُونُ نَصِيبُهُ فِيْهَا كَنَصِيبِ
 أَحَدِهِمْ فَلَهُ الْجَنَّةُ؟" فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ وَهِيَ بَيْتٌ مَعْرُوفَةٌ بِمَدِينَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اشْتَرَاهَا عُثْمَانُ بِخَمْسَةِ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَوَقَفَهَا.

عمدة القاری شرح صحیح البخاری: ج 2 ص 52، 53 باب من رای صدقة الماء وهبته

ووصيته جائزة

ترجمہ: بئر رومہ (رومہ کا کنواں)؛ کنویں کی اضافت رومہ کی طرف ہے اور رومہ اس
 کنویں کے مالک کا نام ہے۔ یہ مالک؛ رومہ غفاری تھے۔ شارح بخاری حافظ ابن بطال
 فرماتے ہیں کہ یہ کنواں ایک یہودی کا تھا اور وہ اس پر تالا لگا کر رکھتا تھا اور خود غائب
 رہتا۔ مسلمان پانی لینے کے لیے کنویں پہ آتے، اس یہودی کو وہاں نہ پاتے تو بغیر پانی
 لیے واپس لوٹ جاتے۔ اس بات کی شکایت مسلمانوں نے (آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے) کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں
 کے لئے یوں وقف کرے گا کہ اسے بھی اس کنویں کا اتنا حصہ ملے گا جتنا دوسروں کا ہو
 گا تو اس شخص کے لیے جنت ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو خرید لیا۔ یہ
 کنواں مدینہ منورہ میں معروف ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے 35 ہزار
 درہم میں خرید کر وقف کر دیا۔

غزوات میں شرکت

آپ رضی اللہ عنہ شجاعت کے پیکر تھے۔ آپ نے زمانہ نبوی میں تقریباً تمام غزوات میں بنفس نفیس شرکت کی۔

غزوہ بدر:

17 رمضان المبارک سن 2 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ تین سو سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کر مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ”بدر“ کے مقام پر تشریف لے گئے جہاں کفر و اسلام کا پہلا باضابطہ معرکہ لڑا گیا۔ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بدر کی طرف چلنے کی اجازت مانگی۔ یہ وہ دن تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا شدید بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنگ بدر میں شرکت کی اجازت نہ دی بلکہ انہیں اپنی زوجہ کی خدمت پر مامور فرمایا۔ بالآخر 19 رمضان المبارک سن 2 ہجری بروز اتوار سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی۔

امام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلاذری رحمہ اللہ (ت 279ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

وَوُفِّيَتْ فِي أَيَّامِ بَدْرٍ، وَهِيَ عِنْدَ عُثْمَانَ وَدُفِنَتْ بِالْبَقِيعِ وَصَلَّى عَلَيْهَا عُثْمَانُ وَغَسَلَهَا أُمُّ أَيْمَنَ وَلَمْ يَخْضَرْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُقَالُ إِنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِحَبْرٍ بَدْرٍ حِينَ سُوِيَ عَلَى رُقِيَّةَ التُّرَابِ.

انساب الاشراف للبلاذری: ج 3 ص 104 رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ: سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا نے غزوہ بدر کے موقع پر وفات پائی۔ آپ رضی اللہ

عنہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ آپ کو (مسجد نبوی کے متصل قبرستان) بقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور غسل حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے دیا۔ آپ کی نماز جنازہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے (کیونکہ بدر تشریف لے گئے تھے) یہ بات بھی منقول ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بدر کی فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ پہنچے تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا (کو دفن کر کے ان) کی قبر کی مٹی کو برابر کیا جا رہا تھا۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت نقل

کرتے ہیں:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِذَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمُهُ."

صحیح البخاری: رقم الحدیث 3130

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں (اس لیے) شریک نہیں ہوئے کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی (سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا) تھیں جو ان دنوں بیمار تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عثمان! آپ کے لیے اس شخص کے برابر اجر اور مال غنیمت کا حصہ ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوا ہے۔

غزوہ احد:

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں بھی شرکت فرمائی۔

مولانا محمد نافع رحمہ اللہ (ت 1436ھ) لکھتے ہیں:

”غزوہ احد میں جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُحد پہاڑ کے ایک درہ پر مسلمان تیر اندازوں کی ایک جماعت کو متعین فرمایا اور انہیں کسی صورت میں بھی اس مقام کو نہ چھوڑنے کا حکم صادر فرمایا لیکن ابتداء میں مسلمانوں کی فتح کو دیکھ کر اس جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم نے مقررہ مقام کو چھوڑ دیا اور غنائم اکٹھے کرنے میں شریک ہو گئے۔ ان حالات میں پشت کی طرف سے کفار نے اہل اسلام پر زبردست حملہ کر دیا۔ ان نازک حالات میں بعض مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان لوگوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کو بالا اختصار قرآن مجید میں ذکر فرمایا اور ان لوگوں کی اس لغزش کو معاف فرمادیا:

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَ

لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (آل عمران: 155)

یعنی ان لوگوں کو شیطان نے (اس معاملہ میں) پھسلا دیا اور یہ ان کے پہلے بعض اعمال کی وجہ سے تھا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمادیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے بردبار ہیں۔

مختصر یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سمیت جن مسلمانوں سے یہ فروگزاشت ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمادیا۔ اب ان حضرات پر اس کا کوئی گناہ نہ رہا۔ حق تعالیٰ کلیۃً ان کی تقصیر معاف فرما چکا، اب کسی کو ان پر طعن کرنے کا کوئی حق نہیں اور نہ ملامت کرنے کا کوئی جواز ہے۔“

فوائد نافعہ از مولانا محمد نافع: ص 474، 475

فائدہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی غزوہ احد میں شرکت واضح ہے۔ اس کی مزید

تفصیل ان شاء اللہ آگے آرہی ہے۔

غزوہ عطفان میں آپ ﷺ کے مدینہ میں نائب:

سن 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ”نجد“ کی طرف تشریف لے گئے جہاں قبیلہ بنو عطفان رہائش پذیر تھا۔

امام ابو محمد جمال الدین عبد الملک بن ہشام بن ایوب الحمیری المعافری رحمہ اللہ (ت 213ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ السَّوِيقِ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ بَقِيَّةَ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا ثُمَّ غَزَا نَجْدًا، يُرِيدُ عَظْفَانَ وَهِيَ غَزْوَةُ ذِي أَمْرٍ وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ.

السيرة النبوية لابن هشام: ج 2 ص 46 غزوہ ذی امر

ترجمہ: جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سويق سے واپس تشریف لائے تو ذوالحج کے بقیہ ایام یا اس کے قریب قریب کے دن مدینہ منورہ میں گزارے۔ پھر آپ نجد کی جانب بغرض جہاد تشریف لے گئے۔ آپ کا ارادہ عطفان کا تھا جسے غزوہ ذی امر بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کا قائم مقام حاکم مقرر فرمایا جیسا کہ امام ابن ہشام رحمہ اللہ کی روایت میں ہے۔

غزوہ ذات الرقاع میں آپ ﷺ کے مدینہ میں نائب:

سن 7 ہجری میں غزوہ ذات الرقاع پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ”ذات الرقاع“ کی طرف تشریف لے گئے۔

امام ابو الحسن عزالدین علی بن ابی الکرم محمد بن محمد الشیبانی الجزری ابن الاثیر رحمہ اللہ (ت 630ھ) روایت نقل کرتے ہیں۔

أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ بَنِي النَّضِيرِ
شَهْرَ رَجَبٍ، ثُمَّ غَزَا نَجْدًا يُرِيدُ بَنِي مُحَارِبٍ وَبَنِي ثَعْلَبَةَ مِنْ غَطَفَانَ وَهِيَ
غَزْوَةُ الرِّقَاعِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَجْلِ جَبَلٍ كَانَتْ الْوُقُوعَةُ بِهِ، فِيهِ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ
وَحُمْرَةٌ فَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

اکمل فی التاريخ: ج 2 ص 174 تحت غزوة ذات الرقاع

ترجمہ: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو نضیر کے بعد دو مہینے رجب الاول اور
رجب الثانی مدینہ منورہ میں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ جہاد نجد کی طرف
تشریف لے گئے جہاں قبیلہ بنو غطفان کی دو بڑی شاخوں بنو محارب اور بنو ثعلبہ سے
معرکہ پیش آیا..... یہ غزوہ ”ذات الرقاع“ کہلاتا ہے۔ اسے ذات الرقاع کہنے کی
وجہ یہ ہے کہ جس مقام پر معرکہ پیش آیا وہاں ایک پہاڑ تھا جس پر سیاہ، سفید اور سرخ
پتھر موجود تھے۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
کو مدینہ منورہ کا قائم مقام حاکم بنایا۔

صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان:

[1]: سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ
رضی اللہ عنہم کے ہمراہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ اس کے
بعد کسی نے سر کے بال منڈوائے اور کسی نے کتروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
خواب صحابہ رضی اللہ عنہم کو سنایا۔ سب نہایت خوش ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے اسی سال ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ کے ارادہ سے مکہ مکرمہ کا سفر
شروع کیا۔ آپ کے ہمراہ جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد 1400 اور
1500 کے درمیان تھی۔ مقام ذوالحلیفہ پہنچ کر سب نے احرام باندھا۔

[2]: مقام حدیبیہ تک پہنچے تو کفار مکہ نے مزاحمت کی کہ ہم مکہ میں نہیں آنے

دیں گے۔

[3]: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر سردارانِ قریش مکہ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ بیت اللہ کی زیارت کرنے آئے ہیں، زیارت کر کے چلے جائیں گے۔

[4]: جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ جانے لگے تو بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو خوش قسمت ہیں کہ مکہ جا کر بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو کئی سال بھی وہاں رکن پڑے تب بھی وہ طواف نہیں کریں گے جب تک میں طواف نہ کر لوں۔

[5]: قریش مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ طواف کر لیں لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کے لیے بیت اللہ میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔

[6]: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس بات پر راضی نہ ہوئے تو قریش مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمراہ جانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مکہ ہی میں روک لیا۔

[7]: ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔

[8]: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شہادتِ عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔

[9]: آپ ﷺ کے ہاتھ پر سب سے پہلے حضرت ابوسنان عبد اللہ بن وہب

الاسدی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی۔ ان کے بعد باقی لوگوں نے کی۔ آپ ﷺ نے اپنے دائیں ہاتھ کے متعلق فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر اس دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی بیعت فرمائی۔

[10]: بعد میں پتہ چلا کہ شہادت والی خبر سچی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کفار کے کچھ لوگوں کو قید کرو، چنانچہ انہیں قید کر لیا۔ تب کافروں نے مجبور ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو رہا کیا اور اس کے بدلے اپنے لوگوں کو رہا کروایا۔ اسی مقام حدیبیہ پر فریقین کے درمیان صلح ہوئی۔ مسلمان اس سال واپس چلے گئے اور اگلے سال آکر عمرہ کیا۔

اس حوالے سے چند تصریحات ملاحظہ ہوں:

علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم البغدادی المعروف الخازن (ت 741ھ) آیت ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ﴾ [الف: 27] کا شان نزول ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي الْمَنَامِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْحُدَيْبِيَّةِ أَنَّهُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ آمِنِينَ وَيَخْلُقُوا رُؤُوسَهُمْ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَصْحَابَهُ فَقَرِحُوا وَحَسِبُوا أَنَّهُمْ دَاخِلُو مَكَّةَ عَامَهُمْ ذَلِكَ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا وَلَمْ يَدْخُلُوا شَقَّ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَقَالَ الْمُتَأَفِّقُونَ: أَيْنَ رُؤْيَاكَ الْبَنِي رَأَاهَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ وَدَخَلُوا فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ.

تفسیر الخازن: ج 4 ص 173

ترجمہ: اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی طرف جانے سے پہلے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ امن و سکون سے مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں اور اپنے سر منڈوا رہے ہیں (یعنی عمرہ کی ادائیگی کر رہے ہیں)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہی سمجھا کہ اسی سال ہم مکہ جائیں گے (اور عمرہ ادا کریں گے)۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمرہ کے ارادہ سے عازم سفر ہوئے لیکن مشرکین کے حدیبیہ نے مقام پر روک لیا۔ چند شرائط کے ساتھ صلح کر کے) جب یہ لوگ واپس آئے تو یہ بات ان پر شاق گزری۔ اس وقت منافقین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا اس کا کیا بنا؟ (یعنی منافق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں شک کرنے لگے) تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو سچ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے، اپنے سر منڈوائیں گے، قصر کروائیں گے یعنی عمرہ کی ادائیگی کریں گے) چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اگلے سال مکہ میں داخل ہوئے (اور عمرہ کی ادائیگی کی)

امام ابو محمد جمال الدین عبدالملک بن ہشام بن ایوب الحمیری المعافری رحمہ اللہ (ت 213ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَبَعَثَهُ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَأَشْرَافِ قُرَيْشٍ، يُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ لِحَرْبٍ وَإِنَّهُ إِنَّمَا جَاءَ زَائِرًا إِلَيْهَا الْبَيْتِ، وَمُعَظِّمًا لِحُرْمَتِهِ.

السيرة النبوية لابن هشام: ج 2 ص 315 عثمان رسول محمد الی قریش

ترجمہ: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ کو سرداران قریش بالخصوص ابوسفیان کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ لڑنے کی نیت سے نہیں آئے بلکہ بیت اللہ کی زیارت (بصورتِ عمرہ) کرنے آئے ہیں اور اس کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی تعظیم کریں گے۔

امام ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي رحمہ اللہ (ت 327ھ) روایت فرماتے ہیں:

فَقَالَ النَّاسُ: هَيْنِئًا لِابْنِ عَقَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَنَحْنُ هَاهُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ مَكَتَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً مَا طَافَ حَتَّى أَطُوفَ."

تفسیر ابن ابی حاتم الرازی: ج 7 ص 444 تحت ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ترجمہ: (جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ جانے لگے تو) بعض لوگوں نے یہ بات کہہ دی کہ عثمان کی قسمت اچھی ہے وہ مکہ جا کر بیت اللہ کا طواف کریں گے مگر ہم حدیبیہ میں ہیں (ہمیں کفار اجازت دیں یا نہ دیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر عثمان کو کئی سال تک بھی وہاں رکن پڑا وہ اس وقت تک طواف نہیں کریں گے جب تک میں طواف نہ کر لوں۔

فائدہ:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے اور مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھانے کی بھرپور کوشش کی لیکن انہوں نے ضد کی وجہ سے اس بات کو قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔

امام ابو محمد جمال الدین عبد الملک بن ہشام بن ایوب الحمیری المعافری رحمہ اللہ (ت 213ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَخَرَجَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ فَلَقِيَهُ أَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ بَنِي

الْعَاصِ حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا، فَحَمَلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَجَارَهُ حَتَّى بَلَغَ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ عُثْمَانُ حَتَّى أَتَى أَبَا سُفْيَانَ وَعُظْمَاءَ قُرَيْشٍ، فَبَلَّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُرْسِلَهُ بِهِ، فَقَالُوا لِعُثْمَانَ حِينَ فَرَّغَ مِنْ رِسَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ: إِنَّ شَيْئًا أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَطُفْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَاحْتَبَسَتْهُ قُرَيْشٌ عِنْدَهَا، فَبَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَدْ قُتِلَ.

السيرة النبوية لابن هشام: ج 2 ص 315 اشاعة مقتل عثمان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: امام ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے یا اس سے پہلے آپ کی ملاقات ابان بن سعید (جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ رضی اللہ عنہ) سے ہوئی۔ ابان بن سعید نے آپ کو اپنی سواری پر سوار کیا اور بیت اللہ کے قریب لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابوسفیان بن حرب (جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ رضی اللہ عنہ) اور دیگر سردارانِ قریش کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام پہنچایا جو آپ کو دے کر بھیجا گیا تھا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے پیغام پہنچا دیا تو سردار کہنے لگے: عثمان! اگر آپ بیت اللہ کا طواف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں کسی صورت طواف نہیں کروں گا۔ (آپ کے اس جواب پر) قریشیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو قید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ (اور ان کے ہمراہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کو

شہید کر دیا گیا ہے۔

امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ الترمذی رحمہ اللہ (ت 279ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَبَّأُ أَمِيرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: فَبَايَعَ النَّاسَ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ". فَضَرَبَ بِأُحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى. فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِنْ أَيْدِيهِمْ لِأَنَّهُمْ لَا نَفْسَهُمْ.

جامع الترمذی: رقم الحديث 3702

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب (اللہ رب العزت کی طرف سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت رضوان کا حکم دیا گیا تو اس وقت حضرت عثمان بن عفان؛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد اور سفیر بن کر مکہ والوں کے پاس گئے ہوئے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی اور فرمایا: عثمان؛ اللہ اور اس کے رسول کے کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مبارک ہاتھ کو (حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر) دوسرے مبارک ہاتھ پر رکھا۔ حضرت عثمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ لوگوں کے لیے ان کے اپنے ہاتھوں سے بہت بہتر تھا۔

امام ابو محمد جمال الدین عبدالملک بن ہشام بن ایوب الحمیری المعافری رحمہ اللہ (ت 213ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ أَبُو سِنَانٍ الْأَسَدِيُّ.

السيرة النبوية لابن هشام: ج 2 ص 316 مبايعة الرسول الناس على الحرب
ترجمہ: امام شعبی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بیعت رضوان میں سب سے پہلے حضرت ابوسنان الاسدی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔
امام ابو محمد جمال الدین عبد الملک بن ہشام بن ایوب الحمیری المعافری رحمہ اللہ (ت 213ھ) لکھتے ہیں:

ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الَّذِي دُكِرَ مِنْ أَمْرِ عُثْمَانَ بَاطِلٌ.... ثُمَّ بَعَثَتْ قُرَيْشٌ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو، أَخَا بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا لَهُ: أَنْتَ مُحَمَّدًا فَصَالِحُهُ، وَلَا يَكُنْ فِي صَلَاحِهِ إِلَّا أَنْ يَزِجَ عَنَّا عَامَهُ هَذَا.... فَأَتَاهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا، قَالَ: قَدْ أَرَادَ الْقَوْمُ الصُّلْحَ حِينَ بَعَثُوا هَذَا الرَّجُلَ.... ثُمَّ جَزَى بَيْنَهُمَا الصُّلْحَ.

السيرة النبوية لابن هشام: ج 2 ص 316 عثمان رسول محمدی قریش
ترجمہ: پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے (شہید ہونے کے) بارے میں جو خبر پہلے آئی تھی وہ غلط تھی۔ پھر قریش نے بنو عامر بن لوی کے بھائی سہیل بن عمرو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور اس سے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جاؤ اور ان سے صلح کرو۔ صلح اسی بات پر کرو کہ وہ اس سال واپس چلے جائیں (اور اگلے سال آکر عمرہ کریں) چنانچہ سہیل بن عمرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھا تو فرمایا: قریش قوم کا ارادہ صلح کرنے کا ہے تبھی تو انہوں نے اس شخص کو بھیجا ہے۔ پھر فریقین کے درمیان صلح (کے متعلق بات چیت)

شروع ہوئی۔

غزوہ تبوک میں سامانِ جہاد کی فراہمی:

[1]: مدینہ منورہ کے کچھ تاجر زیتون لینے کے لیے روم گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر انہوں نے مدینہ منورہ میں آکر یہ اطلاع دی کہ رومیوں نے بہت بڑی فوج اکٹھی کر لی ہے جس میں غسان عرب اور رومی بہت بڑی تعداد میں ہیں۔

[2]: یہ فوج قیصر روم کے حکم سے اکٹھی ہوئی۔ قیصر روم نے قبیلہ غسان کو۔ جو کہ عیسائی تھا۔ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا۔

[3]: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم فرمایا کہ خوب تیاری کی جائے۔ ہم اس جنگ میں خود پیش قدمی کریں گے۔

[4]: سن 9 ہجری ماہ رجب المرجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے شام کی طرف تقریباً 670 کلومیٹر کے فاصلے پر ”تبوک“ تشریف لے گئے۔

[5]: ”تبوک“ ایک چشمہ یا پہاڑی کا نام ہے۔ اس کے قریب والے علاقے کو ”تبوک“ کہہ دیا جاتا ہے۔

[6]: یہ انتہائی سخت تنگی کا زمانہ تھا۔ سفر بھی طویل تھا، موسم بھی گرمی کا تھا اور سوار یوں اور زادِ راہ کی بھی کمی تھی۔ نیز یہ وہ زمانہ تھا جس میں پھل پک چکے تھے اور عرب کا سارا دار و مدار کھجور کی فصل پر ہوتا تھا اس لئے مسلمانوں کے لئے بہت مشکل تھا۔ اسی لئے اس غزوہ کو ”غزوۃ العسرة“ بھی کہا جاتا ہے۔

[7]: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مالی تعاون کا حکم دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جس کی جتنی وسعت تھی اس نے اس کے مطابق بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

[8]: اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مقدار اور تعداد کے اعتبار سے

بہت زیادہ مال دیا۔

امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ الترمذی رحمہ اللہ (ت 279ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَبَّابٍ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَجُتُّ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ثُمَّ حَضَّ عَلَى الْجَيْشِ فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى مِائَتَا بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ثُمَّ حَضَّ عَلَى الْجَيْشِ فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى ثَلَاثِ مِائَةِ بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَأَنَارَ آيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عَنِ الْمُنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: "مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ. مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ."

جامع الترمذی: رقم الحدیث 3700

ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جیش عُسْرہ کے متعلق (مالی تعاون کی) ترغیب دے رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں 100 اونٹ مع ساز و سامان اللہ کے راستے میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے پیش نظر (مالی تعاون کی) ترغیب جاری رکھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دوبارہ اٹھے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں 200 اونٹ مع ساز و سامان اللہ کے راستے میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے پیش نظر (مالی تعاون کی) ترغیب جاری رکھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسری بار اٹھے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں

300 اونٹ مع ساز و سامان اللہ کے راستے میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ راوی حضرت عبدالرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ منبر سے نیچے تشریف لائے اور (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں) فرمایا: آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس پر کوئی مواخذہ نہیں، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔

فائدہ: آج کی تاریخ (5، جنوری 2024ء) میں ایک اونٹ کی قیمت تقریباً چار لاکھ روپے (400000) ہے۔ اس حساب سے 300 اونٹوں کی قیمت بارہ کروڑ روپے (120000000) بنتی ہے۔ ساز و سامان کی مالیت اس کے علاوہ ہے۔

امام شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح الانصاری الخزرجی رحمہ اللہ (ت 671ھ) فرماتے ہیں:

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: جَاءَ عُثْمَانُ بِالْأُفْدِيَانِ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَصَبَّهَا فِي جَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهَا وَيُقَلِّبُهَا وَيَقُولُ: مَا صَرَّ ابْنُ عَقَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ اللَّهُمَّ لَا تَنْسَ هَذَا الْيَوْمَ لِعُثْمَانَ.

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو لِعُثْمَانَ يَقُولُ: يَا رَبِّ عُثْمَانَ! إِنِّي رَضِيتُ عَنْ عُثْمَانَ فَارْضَ عَنْهُ "فَمَا زَالَ يَدْعُو حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَزَلَّتْ: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَى﴾ الْآيَةِ.

تفسیر الجامع لاحکام القرآن للقرطبی: ج 1 ص 578 تفسیر سورة البقرة: 262

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہمیشہ عمرہ (یعنی جنگ تبوک کے موقع پر مجاہدین) کے لیے آپ صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 دینار لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن (رحمت) پر نچھاور کر دیا۔ روای حدیث حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ (خوش ہو کر) ان دنائیر کو اپنے ہاتھوں سے الٹ پلٹ کر رہے تھے اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمایا: آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اے اللہ! عثمان کے لیے (اجر کے حوالے سے) آج کے دن کو فراموش نہ فرما۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے ہیں: اے عثمان کے رب! میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں بھرا بھرا کرتے رہے یہاں تک طلوع فجر ہو گئی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (آیت کا ترجمہ یہ ہے) جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کا نہ احسان جنت لاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں انہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر و ثواب ہے، ان کو نہ خوف لاحق ہو گا اور نہ ہی غمزدہ ہوں گے۔

فائدہ: ایک دینار سونے کا وزن 4.374 گرام ہوتا ہے۔ اس حساب سے 1000 دینار کا وزن 4374 گرام سونا بنتا ہے۔ آج کی تاریخ (5، جنوری 2024ء) میں ایک گرام سونے کی مالیت 18896 روپے ہے تو 4374 گرام سونے کی مالیت آٹھ کروڑ چھبیس لاکھ اکاون ہزار ایک سو چار روپے (82651104 روپے) بنتی ہے۔

حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر العسقلانی الشافعی رحمہ اللہ

(ت 852ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ" فَجَهَّزَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

فتح الباری شرح صحیح البخاری: ج 7 ص 54 باب مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص عسیرہ (یعنی غزوہ تبوک میں مجاہدین) کے لیے سامان جہاد کا بندوبست کرے گا (اس کے بدلے میں) اس کے لیے جنت ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے (بہت بڑی تعداد اور مقدار میں) سامان جہاد کا بندوبست کیا۔

بارگاہِ خداوندی میں

قرآن کریم کی بعض آیات مبارکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں اور بعض آیات کا مصداق اہل علم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قرار دیا ہے۔ ذیل میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

آیت نمبر 1:

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

سورة البقرة: 262

ترجمہ: جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کا نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں انہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر و ثواب ہے۔ ان کو نہ خوف لاحق ہو گا اور نہ ہی غمزدہ ہوں گے۔

یہ آیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔

امام شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح الانصاری الخزرجی

رحمہ اللہ (ت 671ھ) فرماتے ہیں:

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: جَاءَ عُثْمَانُ بِالْأُفْدِينِ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَصَبَّهَا فِي جَرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهَا وَيُقَلِّبُهَا وَيَقُولُ: مَا ضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ اللَّهُمَّ لَا تَنْسَ هَذَا الْيَوْمَ لِعُثْمَانَ.

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَافِعًا

يَدِيهِ يَدْعُو لِعُثْمَانَ يَقُولُ: يَا رَبَّ عُثْمَانَ! إِنِّي رَضِيْتُ عَنْ عُثْمَانَ فَأَرْضَ عَنْهُ" فَمَا زَالَ يَدْعُو حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَتَوَلَّى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى﴾ (الْآيَةُ).

تفسیر الجامع لاحکام القرآن للقرطبی: ج 1 ص 578 تفسیر سورة البقرة: 262

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عیشِ عمرہ (یعنی جنگِ تبوک کے موقع پر مجاہدین) کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 دینار لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن (رحمت) پر نچھاور کر دیا۔ روای حدیث حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ (خوش ہو کر) ان دنائیر کو اپنے ہاتھوں سے الٹ پلٹ کر رہے تھے اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمایا: آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اے اللہ! عثمان کے لیے (اجر کے حوالے سے) آج کے دن کو فراموش نہ فرما۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے ہیں: اے عثمان کے رب! میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوات بھرا مگتے رہے یہاں تک طلوعِ فجر ہو گئی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (آیت کا ترجمہ یہ ہے) جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کا نہ احسان جنتااتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں انہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر و ثواب ہے، ان کو نہ خوف لاحق ہو گا اور نہ ہی غمزدہ ہوں گے۔

فائدہ: ایک دینار سونے کا وزن 4.374 گرام ہوتا ہے۔ اس حساب سے 1000 دینار کا وزن 4374 گرام سونا بنتا ہے۔ آج کی تاریخ (5، جنوری 2024ء) میں ایک گرام سونے کی مالیت 18896 روپے ہے تو 4374 گرام سونے کی مالیت آٹھ کروڑ چھبیس لاکھ اکاون ہزار ایک سو چار روپے (82651104 روپے) بنتی ہے۔

آیت نمبر 2:

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

سورۃ المائدہ: 93

ترجمہ: جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے پہلے جو کھایا یا پیتا تھا، اس کا کوئی گناہ نہیں بشرطیکہ وہ آئندہ [حرام اشیاء سے] بچتے رہیں اور ایمان اور اعمالِ صالحہ کو اپنائیں اور پھر تقویٰ اور ایمان پر کاربند رہیں اور پھر متقی اور صاحبِ احسان بن کر ہی رہیں، اور اللہ تعالیٰ صاحبِ احسان لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے مصداق میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی شامل فرمایا ہے۔

چنانچہ امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ العباسی الکوفی رحمہ اللہ (ت 235ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

قَالَ عَلِيٌّ: أَخْبَرَهُمْ أَنَّ قَوْلِي فِي عُثْمَانَ أَحْسَنُ الْقَوْلِ، إِنَّ عُثْمَانَ كَانَ مَعَ الَّذِينَ ﴿آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

مصنف ابن ابی شیبہ: ج 21 ص 364 رقم الحدیث 9 کتاب الجمل

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو (جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نامناسب انداز میں یاد کرتے ہیں) یہ پیغام پہنچا دو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں میرا نظریہ بہت عمدہ ہے۔ یقینی بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے حق میں قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہے، نیک اعمال کرتے رہے پھر تقویٰ اختیار کیا، ایمان پر ثابت قدم رہے، تقویٰ اور احسان کو اپناتے رہے اللہ احسان کرنے والوں کو بہت محبوب رکھتا ہے۔

آیت نمبر:3:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ لَا آيِنَمَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

سورۃ النحل:76

ترجمہ: اور اللہ ایک مثال دیتے ہیں کہ دو بندے ہیں ان میں سے ایک گونگا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اسے جہاں بھیجتا ہے وہ ڈھنگ کا کام کر کے نہیں آتا۔ کیا ایسا شخص اس دوسرے بندے کے برابر ہو سکتا ہے جو دوسروں کو اعتدال کی تعلیم دیتا ہو اور خود بھی سیدھی راہ پر چل رہا ہو۔ یہ آیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔

امام محی السنۃ ابو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوی الشافعی رحمہ

اللہ (ت510ھ) فرماتے ہیں:

نَزَلَتْ فِي عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَمَوْلَاهُ كَانَ عُمَانُ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَكَانَ مَوْلَاهُ يَكْرَهُ الْإِسْلَامَ.

تفسیر البغوی: ج3 ص78 تحت قولہ ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ﴾

ترجمہ: یہ آیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شان میں اور ان کے (کافر) غلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس غلام پر خرچ کرتے تھے (اور اس کو اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے) اور آپ کا وہ غلام اسلام قبول کرنے کو ناپسند کرتا تھا۔

آیت نمبر 4:

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾

سورة الانبياء: 101

ترجمہ: بلاشبہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کا مصداق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کے اصحاب کو قرار دیا۔

چنانچہ امام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلاذری رحمہ اللہ (ت 279ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَانَ قَدِيمَ الْبَصَرَةِ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ وَمَعَهُ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ أُولَٰئِكَ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُ عُثْمَانَ.

انسب الاشراف للبلاذری: ج 5 ص 493 رقم الحديث 1272 امر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: محمد بن حاطب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بصرہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چھڑی کے ساتھ زمین کو کریدتے ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر فرما رہے تھے (اور آپ کی زبان پر مذکورہ آیت

جاری تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے) ”بلاشبہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔“ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کے اصحاب مراد ہیں۔

آیت نمبر 5:

﴿أَمَنْ هُوَ قَانِثٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۚ﴾

سورة الزمر: 9

ترجمہ: کیا (ایسا شخص جو شرک کرتا ہو اور دوسروں کو بھی راہ خداوندی سے بھٹکاتا ہو وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے) جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے اور کبھی قیام میں رہتا ہے، آخرت (کی پکڑ) سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ آپ ان سے فرمادیں کہ کیا جو لوگ جانتے ہیں وہ اور جو لوگ نہیں جانتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس آیت کا مصداق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قرار دیا۔ چنانچہ حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ (ت 774ھ) فرماتے ہیں:

عَنْ يَحْيَى الْبُكَّاءِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَرَأَ ﴿أَمَنْ هُوَ قَانِثٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۚ﴾ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَإِنَّمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذَلِكَ لِكثَرَةِ صَلَاةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَقَرَأَتْهُ حَتَّى إِنَّهُ رُبَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ.

تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر: ج 4 ص 96 تحت ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِثُ الْيَلِّ﴾

ترجمہ: حضرت یحییٰ البکاء رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو مذکورہ آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ (تلاوت کے بعد) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آیت کا مصداق عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ امام یحییٰ البکاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس آیت کا مصداق اس لیے قرار دیا کیونکہ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رات کے وقت کثرت سے نوافل ادا کرنے والے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے حتیٰ کہ کبھی کبھار ایک ہی رکعت میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔

بارگاہِ نبوی ﷺ میں

(1): امت محمدیہ کا سب سے زیادہ باحیا انسان

امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل البغدادی رحمہ اللہ (ت 241ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَشَدَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ بَعْدَ نَبِيِّهَا حَيَاءً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ.

فضائل الصحابة: ص 628 رقم الحديث 838 باب فضائل عثمان رضي الله عنه

ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نبی کے بعد اس امت کے سب سے زیادہ باحیا انسان عثمان بن عفان (رضی اللہ عنہ) ہیں۔

(2): فرشتوں کا عثمان رضی اللہ عنہ سے حیا کرنا

امام مسلم بن حجاج القشیری النیشابوری رحمہ اللہ (ت 261ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ؟"

صحیح مسلم: رقم الحديث 6287

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں) فرمایا: میں اس شخص (سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ) سے حیا کیوں نہ کروں جس کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔

(3): آپ ﷺ کا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت علی القتال کرنا

امام ابو محمد جمال الدین عبد الملک بن ہشام بن ایوب الحمیری المعافری رحمہ اللہ (ت 213ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِبْنٌ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلَ: لَا نَبْرَحُ حَتَّى نُنَاجِرَ الْقَوْمَ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ فَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

السيرة النبوية لابن هشام: ج 2 ص 315 مبايعة الرسول الناس على الحرب ترجمہ: ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے عبد اللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک قوم (قریش) سے عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بیعت (علی الموت) کے لیے بلایا۔ اسی بیعت کو ”بیعت رضوان“ کہتے ہیں جو ایک (بول کے) درخت کے نیچے ہوئی تھی۔

(4): رسول اللہ ﷺ کا عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا ہم حیثیت قرار دینا

امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد الحاکم رحمہ اللہ (ت 405ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَيَّعْتُمَا نَحْنُ فِي بَيْتِ ابْنِ حَشْفَةَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فِيهِمْ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِيَنْهَضَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ إِلَى كُفَّيْهِ" فَتَهَضَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَعْتَقَهُ.

المستدرک علی الصحیحین للحاکم: ج 4 ص 53، 54 رقم الحدیث 4592

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن ہم مہاجرین: ابن حشفہ کے گھر میں تھے جن میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک اپنی حیثیت کے برابر والے شخص کے ساتھ ہو جائے۔ (وہاں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اٹھے اور اپنی اپنی حیثیت والے کے ساتھ ہو گئے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھے اور انہیں اپنے گلے لگایا۔

(5): رسول اللہ ﷺ کا عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا ولی قرار دینا

امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد الحاکم رحمہ اللہ (ت 405ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَيَّعَ أَخُو فِي بَيْتِ ابْنِ حَشْفَةَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فِيهِمْ: أَبُو بَكْرٍ وَحُمُرٌ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِيَنْهَضَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ إِلَى كُفَيْهِ" فَهَضَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَعْتَقَهُ. وَقَالَ: "أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ."

المستدرک علی الصحیحین للحاکم: ج 4 ص 53، 54 رقم الحدیث 4592

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن ہم مہاجرین ابن حشفہ کے گھر میں تھے۔ جس میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم تھے اللہ کے رسول صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک اپنی حیثیت کے برابر والے شخص کے ساتھ ہو جائے۔ (وہاں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اٹھے اور اپنی اپنی حیثیت والے کے ساتھ ہو گئے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم و سلم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھے، انہیں گلے لگایا اور فرمایا: اے عثمان! آپ دنیا و آخرت میں میرے دوست ہیں۔

(6): بناتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بذریعہ وحی الہی

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی (ت 360ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ ابْنَتِهِ الثَّانِيَةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: لَوْ كُنَّ عَشْرًا لَزَوَّجْتُهِنَّ عُثْمَانَ وَمَا زَوَّجْتُه إِلَّا بِوَحْيٍ مِنَ السَّمَاءِ.

المعجم الكبير للطبرانی: ج 9 ص 384، 385 رقم الحديث 18495

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی (ایک طویل حدیث میں) ہے کہ اللہ کے رسول اپنی دوسری صاحبزادی (سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا) جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، کی قبر کے قریب کھڑے ہوئے اور فرمایا: اگر میری دس بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کرتا۔ میں نے عثمان کا نکاح (اپنی صاحبزادیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما کے ساتھ) وحیِ سماوی (حکم خداوندی) کے مطابق کیا ہے۔

(7): چالیس بیٹیاں ہوتیں تو بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح:

امام ابو العباس احمد بن عبد اللہ بن محمد محب الدین الطبری رحمہ اللہ (ت 694ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَوْ كَانَ عِنْدِي أَرْبَعُونَ بَنَاتًا لَزَوَّجْتُ عُثْمَانَ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ."

الرياض النضرة في مناقب العشرة: ج 3 ص 11 الفصل السادس في خصائصه
ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتیں تو یکے بعد دیگرے ان کی شادی عثمان (رضی اللہ عنہ) کے ساتھ کر دیتا یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہتی۔

(8): آپ ﷺ کا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی کرنا

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت نقل کرتے ہیں:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أَحَدًا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ: "اَثْبُتْ أَحَدًا! فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ".

صحیح البخاری: رقم الحدیث 3675

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ (اسی دوران زلزلہ آیا جس سے) احد پہاڑ لرزنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (پہاڑ پر اپنا پاؤں مبارک مارا اور) فرمایا: احد ٹھہر جا! تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔

(9): بارگاہِ نبوی سے جنت کی بشارت

امام مسلم بن حجاج القشیری النیشاپوری رحمہ اللہ (ت 261ھ) روایت نقل

کرتے ہیں:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ ... اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ: فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تَكُونُ قَالَ: فَذَهَبَتْ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ قَالَ فَفَتَحْتُ وَبَشِّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ.

صحیح مسلم: رقم الحدیث 6212

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تشریف فرماتھے۔ (اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم باری باری حاضر ہو رہے تھے۔ اسی دوران) ایک شخص نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی (اور اندر آنے کی اجازت چاہی)۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (پہلے ٹپک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر سیدھے ہو کر) بیٹھ گئے اور فرمایا: ان کے لیے دروازہ کھول دو اور پیش آنے والی آزمائش پر انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ (اس آزمائش سے مراد وہ سانحہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت کے آخر میں پیش آیا) میں گیا (اور دیکھا) تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔

(10): عثمان رضی اللہ عنہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق

امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ (ت 273ھ) روایت نقل کرتے ہیں:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ.

سنن ابن ماجہ: رقم الحدیث 109

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق (دوست) ہو گا اور جنت میں میرا رفیق عثمان بن عفان ہو گا۔

(11): عثمان رضی اللہ عنہ کا ستر ہزار افراد کی شفاعت کرنا

امام ابو شجاع شیرویہ بن شہر دار بن شیرویہ الدیلمی الحمدانی رحمہ اللہ (ت 509ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَاللَّهِ لَيَشْفَعَنَّ عُثْمَانُ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَهْلِ الْكِبَائِرِ مِمَّنْ قَدْ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ حَتَّى يُدْخِلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ."

الفر دوس بماثور الخطاب: ج 4 ص 360 رقم الحديث 7034

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قسم بخدا! (قیامت کے دن) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میری امت کے ستر ہزار مرتکبین کبیرہ لوگوں کی شفاعت کریں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی یہاں تک کہ اللہ ان گنہگاروں کو جنت میں داخل فرمادیں گے۔

(12): رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتماد

امام ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي رحمہ اللہ (ت 327ھ) روایت فرماتے ہیں:

فَقَالَ النَّاسُ: هَبِيئًا لِابْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَنَحْنُ هَاهُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ مَكَفَّ كَذَا وَكَذَا سَنَةً مَا طَافَ حَتَّى أَطُوفَ."

تفسیر ابن ابی حاتم الرازی: ج 7 ص 444 تحت قوله لقد رضي الله عن المؤمنين الآية

ترجمہ: (جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ جانے لگے تو) بعض لوگوں نے یہ بات کہہ دی کہ عثمان کی قسمت اچھی ہے وہ مکہ جا کر بیت اللہ کا طواف کریں گے مگر ہم حدیبیہ میں ہیں (ہمیں کفار اجازت دیں یا نہ دیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر عثمان کو کئی سال تک بھی وہاں رکن پڑا وہ اس وقت تک طواف نہیں کریں گے جب تک میں طواف نہ کر لوں۔

(13): عثمان رضی اللہ عنہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت:

امام ابوالقاسم عبد الرحمن بن محمد بن اسحاق ابن منندہ العبدی الاصبہانی رحمہ اللہ (ت 470ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا نُنْشِئُهُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

المستخرج من كتب الناس: ج 1 ص 150 تحت ذكر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم عثمان بن عفان (رضی اللہ عنہ) کو اپنے والد حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے مشابہ سمجھتے ہیں۔

(14): حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت:

امام عبد الرحمن بن ابی بکر جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ (ت 911ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلثُومٍ قَالَ لَهَا: "إِنَّ بَعْلَكَ أَشَبَّهُ النَّاسِ بِجَدِّكَ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِيكَ مُحَمَّدٍ."

تاریخ الخلفاء: ص 120 الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے کیا تو ان سے فرمایا کہ بیٹی! آپ کے شوہر آپ کے دادا حضرت ابراہیم (علیہ السلام) اور آپ کے والد محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بہت ملتے جلتے ہیں۔

(15): عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والا عند اللہ مبغوض

امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ الترمذی رحمہ اللہ (ت 279ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُنِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ رَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا رَأَيْتَكَ تَرَكْتَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ قَبْلَ هَذَا؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يَبْغُضُ عُثْمَانَ فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ.

جامع الترمذی: رقم الحدیث 3709

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک میت لائی گئی تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے (ازراہ تعجب) پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی نماز جنازہ چھوڑتے نہیں دیکھا۔ (پھر اس شخص کی نماز جنازہ کیوں چھوڑ دی؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص عثمان سے دلی نفرت رکھتا تھا، اس لیے یہ شخص اللہ کا بھی مبغوض ٹھہرا۔

عہد صدیق رضی اللہ عنہ میں

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے اوصافِ جمیلہ اور صلاحیتوں کی وجہ سے امتیازی مقام حاصل رہا۔ ریاستی امور کے حل اور تعمیر و ترقی کے لیے آپ کی آراء کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مجلس شوریٰ کے رکن رکین تھے۔ روم کی طرف پیش قدمی کے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ارتداد کے فتنے کو کچل دیا تو ملک روم کی طرف پیش قدمی کا ارادہ فرمایا۔ اس سلسلے میں اصحابِ رائے سے مشورہ لیا۔ ہر شخص نے اپنی اپنی رائے کا اظہار فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی رائے پیش کی۔

امام ابو القاسم علی بن الحسن بن ہبۃ اللہ المعروف بابن عساکر (ت 571ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنِّي أَرَى أَنَّكَ نَاصِحٌ لِأَهْلِ هَذَا الدِّينِ، شَفِيقٌ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رَأَيْتَ رَأْيًا تَرَاهُ لِعَامَتِهِمْ صَلَاحًا فَاعِزِّمْ عَلَى إِمْضَائِهِ فَإِنَّكَ غَيْرُ ظَلِيمٍ. فَقَالَ طَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَمَنْ حَضَرَ ذَلِكَ الْمَجْلِسَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: صَدَقَ عُثْمَانُ مَا رَأَيْتَ مِنْ رَأْيٍ فَأَمَضْنَاهُ، فَإِنَّا لَا نُخَالِفُكَ وَلَا نَنْهَيْكَ.

تاریخ دمشق لابن عساکر: ج 2 ص 64 باب ذکر اہتمام ابی بکر الصدیق بفتح الشام ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے (مشورہ دیتے ہوئے) فرمایا: میں اس بات کو بخوبی سمجھتا ہوں کہ آپ اس امت کے خیر خواہ اور مشفق ہیں، لہذا آپ کسی بات کو مسلمانوں کے لیے مفید سمجھیں تو اس کو کر گزریے! اس حوالے سے آپ پر کوئی

بدگمانی نہیں کی جاسکتی۔ اس پر حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعید بن زید اور اس مجلس میں موجود تمام مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم نے بیک زبان کہا: حضرت عثمان نے سچ فرمایا ہے۔ جو آپ کو مناسب نظر آئے وہ کر لیں۔ ہم آپ کی مخالفت کریں گے نہ آپ کے بارے میں کوئی برا گمان رکھیں گے۔

تخت سالی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت:

امام ابو بکر محمد بن الحسین بن عبد اللہ الآجری البغدادی رحمہ اللہ (ت 360ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَخَطَ الْمَطَرُ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا: السَّمَاءُ لَمْ تُمَطِّرْ وَالْأَرْضُ لَمْ تَنْبُتْ وَالنَّاسُ فِي شِدَّةٍ شَدِيدَةٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: اِنْصِرِفُوا وَاصْبِرُوا فَإِنَّكُمْ لَا تُمَسُّونَ حَتَّى يُفَرِّجَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْكُمْ فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا قَلِيلًا أَنْ جَاءَ أَجْرَاءُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الشَّامِ فَبَجَّاءَتْهُ مِائَةٌ رَاحِلَةً بَرًّا أَوْ قَالَ: طَعَامًا فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَى بَابِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَرَعُوا عَلَيْهِ الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَلَأٍ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ: مَا تَشَاءُونَ؟ قَالُوا: الزَّمَانُ قَدْ فَخَطَ السَّمَاءُ لَا تُمَطِّرُ وَالْأَرْضُ لَا تَنْبُتُ وَالنَّاسُ فِي شِدَّةٍ شَدِيدَةٍ وَقَدْ بَلَغْنَا أَنَّ عِنْدَكَ طَعَامًا فَبِعْنَاهُ حَتَّى تَوْسِعَ عَلَى فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ عُثْمَانُ: حُبًّا وَكَرَامَةً أَدْخُلُوا فَاشْتَرَوْا فَدَخَلَ التُّجَّارُ فَإِذَا الطَّعَامُ مَوْضُوعٌ فِي دَارِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا مَعْاشِرَ التُّجَّارِ تَرِبْجُونِي عَلَى شِرَائِي مِنَ الشَّامِ؟ قَالُوا: لِلْعَشْرَةِ اثْنَا عَشَرَ. فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدْ زَادُونِي. قَالُوا: لِلْعَشْرَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ. فَقَالَ عُثْمَانُ: قَدْ زَادُونِي. قَالُوا: لِلْعَشْرَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ قَالَ عُثْمَانُ: قَدْ زَادُونِي. قَالَ التُّجَّارُ: يَا أَبَا عَمْرٍو! مَا بَقِيَ فِي

الْمَدِينَةِ تَجَارٌ غَيْرُنَا فَمَنْ ذَا الَّذِي زَادَكَ؟ فَقَالَ: زَادَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلِّ دَرْهَمٍ عَشْرَةً أَعِنْدَكُمْ زِيَادَةً؟ فَقَالُوا: أَلَلَّهُمَّ لَا. قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ هَذَا الطَّعَامَ صَدَقَةً عَلَى فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ.

الشريعت: لآجری، رقم الحديث: 1486

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ اکٹھے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: بارش نہیں ہوئی، فصلیں نہیں اگیں اور لوگ سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ لوگ تشریف لے جائیں! صبر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ شام تک آپ کی اس پریشانی کو دور فرمادیں گے۔ تھوڑی دیر گزری کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ملازمین کا قافلہ 100 اونٹوں پر غلہ لادے ہوئے شام سے مدینہ پہنچ گیا۔ یہ خبر ملتے ہی (تاجر) لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں کے مجمع میں تشریف لائے اور فرمایا: آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کی کہ آپ جانتے ہیں ان دنوں قحط آ چکا ہے، بارشیں نہیں ہوئیں، فصلیں نہیں اگیں اور لوگ سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس غلہ آیا ہے، آپ یہ ہمیں فروخت کر دیں تاکہ اسے فقراء و مساکین تک پہنچایا جاسکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بہت خوب! اندر تشریف لائیں (ریٹ سمجھ آئے تو) خرید لیں۔ تاجر لوگ آپ کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ گندم موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تاجروں سے فرمایا: آپ لوگ شام سے میری قیمت خرید پر کتنا منافع دیں گے؟ انہوں نے کہا: دس کا بارہ دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔

انہوں نے کہا: دس کا چودہ دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا: دس کا پندرہ لے لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا کہ اے ابو عمرو! مدینہ میں ہمارے علاوہ کوئی تاجر تو ہے نہیں پھر کون ایسا ہے جو آپ کو ہم سے زیادہ دے رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا: اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ دے رہے ہیں۔ ایک درہم کا دس درہم دے رہے ہیں۔ کیا آپ اس سے زیادہ دے سکتے ہیں؟ تاجروں نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اتنا زیادہ ہم نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے فرمایا: میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس سارے غلے کو غریب و فقیر مسلمانوں پر صدقہ کرتا ہوں۔

والی بحرین کے تقرر کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے:

امام ابو عبد اللہ محمد بن سعد بن منیع الہاشمی البغدادی رحمہ اللہ (ت: 230ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

وَشَاوَرْتُ أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَصْحَابَهُ فِيمَنْ يُبْعَثُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ لَهُ عُمَانُ بْنُ عَفَّانَ: إِنِّي بَعَثْتُ رَجُلًا قَدْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَدِمَ عَلَيْهِ بِإِسْلَامِهِمْ وَطَاعَتِهِمْ وَقَدْ عَرَفُوهُ وَعَرَفَهُمْ وَعَرَفَ بِلَادَهُمْ يَعْنِي: أَلْعَلَّاءَ بْنَ الْحَضَرَمِيِّ..... وَأَجْمَعَ أَبُو بَكْرٍ بَعَثَةَ الْعَلَاءِ بْنَ الْحَضَرَمِيِّ إِلَى الْبَحْرَيْنِ.

الطبقات الكبير لابن سعد، رقم الحديث: 5777

ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اصحاب رائے سے مشورہ لیا کہ بحرین کا والی کسے بنایا جائے؟ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ اس شخص کو بحرین کا والی مقرر کریں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں کے پاس

بھیجا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحرین والوں کے مسلمان ہونے اور ان کے اطاعت گزار ہونے کا پیغام لے کر حاضر ہوئے تھے۔ وہاں کے لوگ ان کو جانتے ہیں اور یہ وہاں کے لوگوں کو اور ان کے ملک کو جانتے ہیں۔ یعنی حضرت علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے۔ بالآخر (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کو بحرین کا والی مقرر کر دیا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مدینہ میں نائب:

امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری رحمہ اللہ (ت 310ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ أَبِي وَجْزَةَ يَزِيدَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَجَّ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ.

تاریخ الطبری: ج 3 ص 386 حوادث متفرقة

ترجمہ: حضرت ابو وجزہ یزید بن عبید اپنے والد (حضرت عبید) سے روایت کرتے ہیں کہ سن 12 ہجری میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کا قائم مقام حاکم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بنا کر گئے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتماد:

امام ابو الحسن عزالدین علی بن ابی اکرم محمد بن محمد الشیبانی الجزری ابن الاثیر رحمہ اللہ (ت 630ھ) روایت نقل کرتے ہیں۔

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَحْضَرَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ حَالِيًا لِيَكْتُبَ عَهْدَ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، "هَذَا مَا عَهْدَ أَبِي بَكْرٍ بِنِ أَبِي تُحَفَافَةَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، أَمَّا بَعْدُ!" ثُمَّ أُلْغِيَ عَلَيْهِ فَكُتِبَ عُثْمَانُ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَدْ

اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَلَمْ أَلْكُمُ خَيْرًا. ثُمَّ أَفَاقَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: اقْرَأْ عَلَيَّ. فَقَرَأَ عَلَيْهِ. فَكَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: أَرَاكَ خِفْتُ أَنْ يَخْتَلِفَ النَّاسُ إِنْ مِتُّ فِي عَشِيَّتِي. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا عَنِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ.

اکامل فی التاریخ: ج 2 ص 425 ذکر استخلافہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ (کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنے کے لیے آپ) نے علیحدگی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلایا تاکہ استخلاف عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ لکھوائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اس بارے میں میرا فیصلہ لکھو!

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”یہ فیصلہ ابو بکر بن ابی قحافہ کی طرف سے تمام مسلمانوں کے نام ہے۔ اما بعد!“
(اتنی بات لکھواپائے کہ) آپ رضی اللہ عنہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے اما بعد کے بعد یہ عبارت لکھی:
”میں آپ لوگوں پر اپنا جانشین عمر بن خطاب کو مقرر کرتا ہوں اور میں نے آپ لوگوں کے لیے بھلائی و خیر خواہی کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرتا۔“

پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بے ہوشی سے کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا کہ ہاں!
(جو لکھا ہے وہ) مجھے سناؤ! حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ عبارت سنائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا: اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ اگر میں بے ہوشی میں ہی وفات پا جاتا تو لوگ اختلاف و افتراق کا شکار ہو جاتے (تبھی آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھ دیا) آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی ہاں ایسے ہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔

عہد فاروقی رضی اللہ عنہ میں

اسلامی تقویم کے آغاز کے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تجویز:

حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ

(ت774ھ) فرماتے ہیں:

اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي سَنَةِ بَسْتُ عَشْرَةَ - وَقِيلَ: سَنَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانِي عَشْرَةَ - فِي الدَّوْلَةِ الْعُمَرِيَّةِ عَلَى جَعْلِ ابْتِدَاءِ التَّارِيخِ الْإِسْلَامِيِّ مِنْ سَنَةِ الْهِجْرَةِ. وَذَلِكَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُفِعَ إِلَيْهِ صَلَّ، أُمِّي حُجَّةٌ، لِرَجُلٍ عَلَى آخَرٍ، وَفِيهِ أَنَّهُ يَحِلُّ عَلَيْهِ فِي شَعْبَانَ، فَقَالَ عُمَرُ: أُمِّي شَعْبَانَ؟ أَشَعْبَانَ هَذِهِ السَّنَةِ الَّتِي نَحْنُ فِيهَا أَوِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ أَوِ الْآتِيَةِ؟ ثُمَّ جَمَعَ الصَّحَابَةُ فَاسْتَشَارَهُمْ فِي وَضْعِ تَارِيخٍ.

البدایۃ والنہایۃ لابن کثیر: ج2 ص220 وقائع السنۃ الاولی من الهجرة

ترجمہ: خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں سن 16، سن 17 یا سن 18 ہجری (علی اختلاف الاقوال) میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اسلامی تاریخ کی ابتداء سن ہجرت سے کی جائے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دستاویز پیش کی گئی جو ایک شخص کی دوسرے شخص؛ مقروض کے خلاف تھی جس میں مذکور تھا کہ (قرض کی) یہ رقم شعبان میں واجب الاداء ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کون سا شعبان؟ موجودہ سال کا؟ سال گزشتہ یا آئندہ سال کا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے تاریخ مقرر کرنے کے بارے میں مشاورت فرمائی۔

اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی چند آراء درج ذیل تھیں:

1. سن ولادت نبوی
2. سن بعثت نبوی

3. سن ہجرت نبوی . سن وفات نبوی 4.

حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ
(ت 774ھ) فرماتے ہیں:

وَأَشَارَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَآخَرُونَ أَنَّ يُودَّخَ مِنْ هِجْرَتِهِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى
الْمَدِينَةِ لِظُهُورِهِ لِكُلِّ أَحَدٍ فَإِنَّهُ أَظْهَرُ مِنَ الْمَوَلِدِ وَالْمَبْعَثِ. فَاسْتَحْسَنَ ذَلِكَ
عُمَرُ وَالصَّحَابَةُ، فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ يُودَّخَ مِنْ هِجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

البدایۃ والنہایۃ لابن کثیر: ج 4 ص 80 فتح قرطبیۃ وھبت فی ھذہ السنۃ

ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مشورہ دیا کہ تاریخ کی ابتداء ہجرت والے سال سے شروع کی جائے۔ کیونکہ ہجرت کا واقعہ سب کے سامنے ظاہر ہے۔ مزید یہ کہ ولادت، بعثت اور وفات کی بنسبت ہجرت زیادہ مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس رائے کو سراہا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کیا کہ تاریخ اسلامی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت سے شروع کیا جائے۔

اس کے بعد سال کا آغاز کس مہینے سے کیا جائے؟ اس میں بھی درج ذیل آراء سامنے آئیں:

1. محرم 2. ربیع الاول

3. رجب 4. رمضان

حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر العسقلانی الشافعی رحمہ اللہ
(ت 852ھ) فرماتے ہیں:

فَقَالَ عُثْمَانُ: أَرِحُوا الْمُحَرَّمَ فَإِنَّهُ شَهْرٌ حَرَامٌ وَهُوَ أَوَّلُ السَّنَةِ
وَمُنْصَرَفُ النَّاسِ مِنَ الْحَجِّ، قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ سَنَةً سَبْعَ عَشْرَةَ وَقِيلَ: سَنَةٌ

سِتِّ عَشْرَةَ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ.

فتح الباری شرح صحیح البخاری: ج 7 ص 169 باب التاریخ من این انخوا التاریخ؟ ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محرم سے تاریخ کی ابتداء کی جائے کیونکہ محرم ان مہینوں میں سے ایک ہے جو قابل احترام ہیں۔ اور (عرب دستور کے مطابق) سال کا ابتدائی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ حج سے (واپس اپنے گھروں کو) لوٹ چکے ہوتے ہیں۔ یہ 17 یا 16 ہجری کی بات ہے (جب یہ مشورہ ہو رہا تھا تو اس وقت) مہینہ ربیع الاول کا تھا۔

فائدہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ہجرت ربیع الاول میں فرمائی لیکن اس کا ارادہ محرم سے فرمایا تھا۔ گویا ہجرت کا منصوبہ محرم میں تشکیل پایا گیا۔

بیت المال کی ریکارڈ بندی سے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تجویز:

امام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلاذری رحمہ اللہ (ت 279ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ فِي تَدْوِينِ الدِّيَارِ... قَالَ عُثْمَانُ: أَرَى مَالًا كَثِيرًا يَسْعُ النَّاسُ وَإِنْ لَمْ يُخْصَوْا حَتَّى يُعْرِفَ مَنْ أَخَذَهُمْ لَمْ يَأْخُذْ حِسْبَتُ أَنْ يَنْتَشِرَ الْأَمْرُ.

فتوح البلدان للبلاذری: ص 267 العطاء فی خلافة عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت جبیر بن الحویرث رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے بیت المال کی ریکارڈ بندی کے متعلق مشورہ لیا۔ (اس موقع پر) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے یہ پیش کی کہ مجھے (آنے والے وقت میں یوں) نظر آ رہا ہے کہ مال بہت آئے گا جو لوگوں کے لیے کافی وافی ہو گا۔ (ابھی سے یہ ترتیب بنانی ضروری ہے کہ ریکارڈ جمع کیا جائے اور) اگر لوگوں کا ریکارڈ نہ رکھا گیا کہ

کس نے لیا ہے اور کس نے نہیں لیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ معاملہ انتشار کا شکار ہو گا (یعنی مشکل پیش آئے گی۔)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وظیفہ لینے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے:

امام ابو عبد اللہ محمد بن سعد بن منیع البغدادی رحمہ اللہ (ت 230ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَكَثَ عُمَرُ زَمَانًا لَا يَأْكُلُ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا حَتَّى دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ خَصَاصَةٌ. وَأُرْسِلَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَشَارَهُمْ فَقَالَ: قَدْ شَغَلْتُ نَفْسِي فِي هَذَا الْأَمْرِ فَمَا يَصْلُحُ لِي مِنْهُ؟ فَقَالَ عُمَانُ بْنُ عَفَّانَ: كُلْ وَأَطِيعْ.

الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ج 3 ص 233 ذکر اختلاف عمر رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت ایوب بن ابی امامہ بن سہل بن حنیف رحمہ اللہ اپنے والد حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ (منصب خلافت سنبھالنے کے بعد) کافی عرصہ تک بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ (ریاستی امور میں مشغولیت کے باعث کاروبار وغیرہ کر کے کمانا مشکل تھا) اس لیے نوبت تنگ دستی تک آپہنچی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پیغام بھیجا (کہ ایک اہم معاملے میں مشورہ کرنا ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع ہو گئے تو) آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے مشورہ لیا کہ میں امور ریاست میں مشغول ہوں، کیا بیت المال سے میرے لیے بقدر ضرورت مال لینے گنجائش ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کھائیے اور کھلائیے!

فائدہ: معلوم ہوا کہ دینی امور میں اپنی خدمات کو جاری رکھنے کے لیے اجرت بوقت

ضرورت اور بقدر ضرورت بوجہ جس الوقت بصورت حق الحزم مت لی جاسکتی ہے۔

امہات المومنین کی حفاظت پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تقرر:

امام ابو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن الجوزی رحمہ اللہ (ت 597ھ)

نقل کرتے ہیں:

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَأَبِي حَارِثَةَ وَالرَّبِيعِ بِأَسْنَادِهِمْ قَالُوا: سَجَّ عُمَرُ بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَعَهُنَّ أَوْلِيَاءُ وَهُنَّ [هَمْنٌ] لَا تَحْتَجِجْنَ مِنْهُ، وَجَعَلَ فِي مُقَدِّمِ قِطَارِهِنَّ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَفِي مُؤَخَّرِهِ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ. المنتظم فی تاریخ الامم والملوک لابن جوزی: ج 4 ص 327 تحت فتح مصر

ترجمہ: حضرت ابو عثمان، ابو حارثہ اور ربیع رحمہم اللہ سے بسند مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (اپنی خلافت کے آخری سال سن 23ھ میں) نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ حج کیا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ ان کے وہ محرم لوگ بھی موجود تھے جن سے ان کے پردے کا مسئلہ نہیں تھا۔ (ازواج مطہرات اونٹوں پر سوار تھیں اور اس) قطار کے آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اور آخر میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان واسطہ:

امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری رحمہ اللہ

(ت 310ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ مُحَمَّدٍ وَطَلْحَةَ وَزِيَادٍ وَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ رَمَوْهُ بِعُثْمَانَ أَوْ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

تاریخ الطبری: ج 3 ص 480 ذکر ابتداء امر القادسیہ

ترجمہ: حضرت امام محمد، طلحہ اور زیاد رحمہم اللہ سے بسند مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی بات پوچھنا چاہتے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو یا پھر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو درمیان میں واسطہ بناتے۔

استخلاف عثمان رضی اللہ عنہ کا اشارہ:

[1]: امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری رحمہ اللہ (ت 310ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

كَانَ عُمَانُ يُدْعَى فِي إِمَارَةِ عُمَرَ "رَدِيفًا" قَالُوا: وَالرَّدِيفُ بِلِسَانِ الْعَرَبِ الرَّجُلُ الَّذِي بَعْدَ الرَّجُلِ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ الَّذِي يَزُجُونَهُ بَعْدَ رَئِيسِهِمْ.

تاریخ الطبری: ج 3 ص 480 ذکر ابتداء امر القادسیۃ

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ”ردیف“ کہا جاتا تھا۔ عربی زبان میں ”ردیف“ اس شخص کو کہتے ہیں جو شہسوار کے پیچھے بیٹھنے والا ہو۔ اہل عرب ردیف اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بارے میں یہ امید ہو کہ اس سردار کے بعد یہ سردار ہو گا۔

[2]: امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی (ت 360ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَبَّأُ طُعَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَمَرَ بِالشُّوَرَى، دَخَلْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةُ ابْنَتُهُ، فَقَالَتْ: يَا أَبَتِ، إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ الَّذِينَ جَعَلْتَهُمْ فِي الشُّوَرَى لَيْسَ هُمْ بِرَضَى، فَقَالَ: أَشِدُّونِي، فَأَسْتَدْوُوهُ، وَهُوَ لِمَا بِهِ، فَقَالَ: مَا عَسَى أَنْ يَقُولُوا فِي عُثْمَانَ، سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَوْمَ يَمُوتُ عُثْمَانُ تُصَلَّى عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ» قُلْتُ: لِعُثْمَانَ خَاصَّةٌ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: «بَلْ لِعُثْمَانَ خَاصَّةٌ»

المعجم الاوسط للطبرانی: ج 2 ص 249 رقم الحديث 3172

ترجمہ: حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر رحمہ اللہ اپنے والد (حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے اور انہوں نے (امر خلافت کے بارے میں) شوریٰ کو حکم دیا۔ اسی دوران آپ کی صاحبزادی (ام المومنین زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم) سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں تشریف لائیں اور عرض کی: ابو جان! بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے شوریٰ کے لیے منتخب فرمایا ہے وہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (شدت تکلیف کی وجہ سے) فرمایا کہ مجھے سہارا دیں۔ وہاں پر موجود لوگوں نے آپ کو سہارا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس وقت سخت تکلیف کی حالت میں تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: شاید لوگ ایسی باتیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کر رہے ہوں گے حالانکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس دن عثمان کی شہادت ہوگی اس دن آسمان کے فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کریں گے۔ (حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ) میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: کیا یہ صرف عثمان کے لیے ہے یا سب لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے خاص ہے۔

استخلاف عثمان رضی اللہ عنہ کے عملی مراحل:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جبکہ آپ جان

لیوا گھرے زخموں سے چور چور تھے، اپنے بعد امر خلافت کے معاملے کو انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا۔ اس کے لیے درجہ بدرجہ ذیل تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا:

[1]: آپ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے لیے چھ افراد کے نام تجویز فرمائے:

حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم

[2]: ان چھ افراد کو حکم دیا کہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے آپس میں مشورہ کریں۔

اپنے ساتھ صرف بطور مشیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو شامل کر لیں۔

[3]: یہ چھ افراد تین دن کے اندر فیصلہ کریں، تین دن سے زیادہ تاخیر نہ کریں۔

[4]: مدت انتخاب کے دوران حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نماز کی امامت

کریں۔

[5]: حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود الکندی

رضی اللہ عنہ کو انتخابی عمل کی کارروائی کا نگران مقرر فرمایا۔

[6]: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ حکم دیا کہ جب افراد شوریٰ کسی کے خلیفہ

ہونے پر اتفاق کر لیں تو جو ان کی مخالفت کرے اس کی گردن اڑادی جائے۔

[7]: یہ حکم دیا کہ اگر مذکورہ چھ افراد میں سے تین ایک شخص کے بارے میں

رائے دیں اور باقی تین دوسرے شخص کے بارے میں رائے دیں تو ایسی صورت میں

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ثالث تسلیم کر لیں۔ اگر ان کے فیصلہ کو سب مان لیں تو

فبہا ورنہ جس طرف عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہوں اسی کی رائے کے مطابق

خلیفہ نامزد کیا جائے۔

[8]: یہ حکم دیا کہ برابری کی صورت میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ

عنہ کی بات تسلیم کرو۔

فائدہ:

شق نمبر 7 اور 8 میں بہ ظاہر تعارض ہے۔ اس میں تطبیق یہ ہے کہ ان چھ افراد میں سے اگر تین ایک طرف اور تین دوسری طرف ہو جائیں تو چونکہ اب تقابل برابر ہو چکا ہے اس لیے اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو فیصلہ بنا دیا جائے۔ جس فریق کے حق میں وہ فیصلہ دیں اسی کے مطابق خلیفہ نامزد کر دیا جائے۔ اور اگر لوگ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں تو اب فیصلہ کا مدار حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بنایا جائے کہ جس گروہ میں وہ ہوں اسی کی رائے کے مطابق خلیفہ نامزد کر لیا جائے۔

اس حوالے سے ائمہ محدثین و مؤرخین کی چند عبارات ملاحظہ ہوں:

(1): امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

قَالَ: مَا أَجْدَ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ أَوِ الرَّهْطِ الَّذِينَ تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَسَبَّيْ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

صحیح البخاری: رقم الحدیث 3700

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خلافت کا ان حضرات سے زیادہ کسی کو حق دار نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے۔ پھر آپ نے عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام لیے۔

(2): امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

وَقَالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

صحیح البخاری: رقم الحدیث 3700

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما شریک ہو جائیں لیکن امر خلافت کے مستحق نہیں ہوں گے۔

(3): امام ابو عبد اللہ محمد بن سعد بن منیع الهاشمی البغدادی رحمہ اللہ (ت 230ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

وَلَا تَتَرَكُهُمْ يَمْضِي الْيَوْمُ الثَّالِثُ حَتَّى يُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ.

الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ج 3 ص 277، 278 ذکر استخلاف عمر رضی اللہ عنہ

ترجمہ: (حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا) آپ ان لوگوں کو ایسی حالت میں نہ چھوڑیں کہ تین دن گزر جائیں اور انہوں نے اپنے میں سے کسی کو امیر نہ بنایا ہو۔

(4): امام ابو عبد اللہ محمد بن سعد بن منیع الهاشمی البغدادی رحمہ اللہ (ت 230ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

لِيُصَلَّ لَكُمْ صَهَبٌ ثَلَاثًا.

الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ج 3 ص 262 ذکر استخلاف عمر رضی اللہ عنہ

ترجمہ: (حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حکم فرمایا کہ) آپ کو تین دن تک نماز حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ پڑھائیں گے۔

فائدہ:

شوریٰ کے مذکورہ چھ افراد میں سے کسی کو امامت نہیں سوچی کہ کہیں اسے آپ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اسے امر خلافت کی نامزدگی نہ تصور کر لیا جائے۔

(5): امام ابو زید عمر بن شبہ بن عبیدہ بن ربیعہ النخعی البصری رحمہ اللہ

(ت 262ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

وَقَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ: "يَا أَبَا طَلْحَةَ! إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ طَالَمَا
أَعَزَّ الْإِسْلَامَ بِكُمْ، فَاخْتَرْتُ مِنْهُمْ"، وَقَالَ لِيْلَقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ: "إِذَا
وَضَعْتُمُونِي فِي حُفْرَتِي فَاجْمَعْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ فِي بَيْتٍ حَتَّى يَخْتَارُوا رَجُلًا مِنْهُمْ".

تاریخ المدینہ لابن شبہ: ج 3 ص 925 مقتل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا
کہ اے ابو طلحہ! اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کے ذریعے اسلام کو عزت بخشی ہے
اس لیے آپ ان پر نگران رہیں۔ اور حضرت مقداد بن اسود الکندی رضی اللہ عنہ سے
فرمایا کہ جب آپ لوگ مجھے قبر میں اتار دو تو ان لوگوں کو کسی گھر کے اندر جمع کیے رکھنا
یہاں تک کہ وہ اپنے میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں۔

(6): امام ابو عبد اللہ محمد بن سعد بن منیع البہاشمی البغدادی رحمہ اللہ (ت 230ھ)
روایت نقل کرتے ہیں۔

وَتَشَاوَرُوا فِي أَمْرِكُمْ وَالْأَمْرُ إِلَى هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ فَمَنْ بَعَلَ أَمْرَكُمْ
فَاصْطَرَبُوا عَنْقَهُ يَعْنِي مَنْ خَالَفَكُمْ.

الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ج 3 ص 45 ذکر شوریٰ و ماکان من امر ہم

ترجمہ: (حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا) امر خلافت میں مشورہ کرو لیکن یہ یاد
رہے کہ امر خلافت انہی چھ حضرات کے درمیان ہی رہے گا۔ جو شخص (خلیفہ منتخب
ہونے کے اتفاقی موقف کا) انکار کرے تو اس کی گردن اڑا دو۔

فائدہ:

”مَنْ بَعَلَ أَمْرَكُمْ“ کا معنی ہے ”مَنْ خَالَفَكُمْ“ (یعنی جو تمہاری مخالفت

کرے)

(7): امام ابو زید عمر بن شبہ بن عبیدہ بن ربیعہ النمیری البصری رحمہ اللہ (ت 262ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

فَإِنْ رَضِيَ ثَلَاثَةٌ رَجُلًا مِنْهُمْ وَثَلَاثَةٌ رَجُلًا مِنْهُمْ فَحَكِّمُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَأَتَى الْفَرِيقَيْنِ حَكْمَ لَهُ فَلْيَخْتَارُوا رَجُلًا مِنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يَخْتَارُوا بِحَكْمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَكُونُوا مَعَ الَّذِينَ فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ.

تاریخ المدینۃ لابن شبہ: ج 3 ص 925 مقتل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

ترجمہ: (حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا) مذکورہ چھ افراد میں سے تین ایک شخص کے بارے میں رائے دیں اور باقی تین دوسرے شخص کے بارے میں رائے دیں تو ایسی صورت میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ثالث تسلیم کر لیں۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما (دو فریقوں میں سے) جس فریق کے حق میں فیصلہ دیں ان میں سے ایک کو (خلیفہ) منتخب کر لیا جائے۔ اگر عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے فیصلے پر اتفاق نہ ہو تو جس فریق میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہوں، اس فریق کے ساتھ ہو جائیں۔

(8): امام ابو عبد اللہ محمد بن سعد بن منیع الهاشمی البغدادی رحمہ اللہ (ت 230ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

وَإِنْ اجْتَمَعَ رَأْيُ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ فَاتَّبِعُوا صِنْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا.

الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ج 3 ص 45 ذکر الشوریٰ و ماکان من امرہم

ترجمہ: (حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا) چھ افراد میں سے تین ایک شخص کے بارے میں رائے دیں اور باقی تین دوسرے شخص کے بارے میں رائے دیں تو ایسی صورت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اتباع کرنا۔ ان کی بات سننا

اور اس پر عمل کرنا۔

استخفافِ عثمان رضی اللہ عنہ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا دانشمندانہ کردار:

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین سے لوگ فارغ ہوئے تو ممبرانِ شوریٰ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا (علیٰ اختلاف القولین) کے گھر میں جمع ہوئے۔ اس دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے چند امور سرانجام دیے:

(1): حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مجوزہ امیدواروں کی تعداد چھ سے تین تک لے آئے۔

(2): حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو فرمایا کہ جو بھی امر خلافت سے اپنی براءت ظاہر کرے گا ہم خلافت اسی کو دے دیں گے اور اللہ اس کا نگہبان ہو گا۔

(3): حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دونوں حضرات کی اجازت سے خلیفہ نامزد کرنے کی ذمہ داری خود لے لی۔

(4): حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دونوں کو اعتماد میں لیا۔

(5): حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان دونوں حضرات سے متعلق خود بھی غور و خوض کیا اور اہل مدینہ سے مشورہ بھی کیا۔

(6): حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعتِ خلافت کی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی۔ اس کے بعد تمام اہل مدینہ نے کی۔

اس حوالے سے محدثین و مؤرخین کی چند عبارات ملاحظہ فرمائیں:

[1]: امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت ذکر

کرتے ہیں:

فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةِ مِنْكُمْ. فَقَالَ الرَّبِيعُ:
قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيٍّ. فَقَالَ طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ وَقَالَ سَعْدٌ:
قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

صحیح البخاری: رقم الحدیث 3700

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے (امور مشاورت کو احسن طریقے سے نمٹانے کے لیے اولاً) یہ رائے پیش کی کہ آپ لوگ اپنا معاملہ اپنے میں سے تین لوگوں کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ

◀ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنا معاملہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتا ہوں۔

◀ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنا معاملہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتا ہوں۔

◀ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنا معاملہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتا ہوں۔

[2]: امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت ذکر کرتے ہیں:

أَيُّكُمْ تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ فَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ
لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ فَأَسْكَتَ الشَّيْخَانِ.

صحیح البخاری: رقم الحدیث 3700

ترجمہ: (حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا) آپ دونوں میں سے جو بھی امر خلافت

سے اپنی براءت ظاہر کرے گا ہم خلافت اسی کو دے دیں گے اور اللہ اس کا نگہبان ہو گا۔ مزید یہ کہ اسلام کے حقوق کی ذمہ داری اس پر ہوگی۔ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون افضل ہے؟ اس پر شیخین (دونوں بزرگ) خاموش ہو گئے۔ [3]: امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت ذکر کرتے ہیں:

أَفْتَجَعَلُونَهُ إِلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَلُو عَنْ أَفْضَلِكُمْ؟ قَالَا: نَعَمْ.

صحیح البخاری: رقم الحدیث 3700

ترجمہ: کیا آپ لوگ انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں؟ اللہ گواہ ہے کہ میں آپ میں سے جو افضل ہو گا اسے منتخب کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کروں گا۔ ان دونوں حضرات نے جواب دیا: جی ہاں!

[4]: امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت ذکر کرتے ہیں:

فَأَخَذَ يَبِيدُ أَحَدِهِمَا فَقَالَ: لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَدَمُ فِي الْإِسْلَامِ، مَا قَدْ عَلِمْتُ فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ وَلَئِنْ أَمَرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتَطِيعَنَّ ثُمَّ خَلَا بِالْآخَرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.

صحیح البخاری: رقم الحدیث 3700

ترجمہ: پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان دونوں میں سے ایک (حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ) کا ہاتھ پکڑا اور ان سے فرمایا کہ آپ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ داری ہے اور آپ کو ابتداء میں اسلام قبول کرنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ جیسا کہ آپ کو خود بھی یہ بات بخوبی معلوم ہے اللہ آپ کا نگہبان ہے۔ اگر میں آپ کے بارے میں خلیفہ ہونے کا فیصلہ کروں تو کیا آپ

عدل سے کام لیں گے اور اگر میں عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنادوں تو کیا آپ ان کے احکام مانیں گے اور اطاعت کریں گے؟ اس کے بعد دوسرے (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ) کو الگ لے گئے اور ان سے بھی یہی بات فرمائی۔

[5]: امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت ذکر کرتے ہیں:

يَا عَلِيُّ! إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا.

صحیح البخاری: رقم الحدیث 7207

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے علی! میں نے لوگوں (یعنی اہل مدینہ سے مشاورت کے بعد ان) کی آراء میں غور و خوض کیا ہے (میری اور ان کی دیانتدارانہ رائے یہ ہے کہ) وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے آپ کے دل میں اس بارے میں کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔

امام ابو زید عمر بن شبہ بن عبیدہ بن ریظہ النمیری البصری رحمہ اللہ (ت 262ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: يَا عَلِيُّ! لَا تَجْعَلْ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا، فَإِنِّي قَدْ نَظَرْتُ وَشَاوَرْتُ النَّاسَ فَإِذَا هُمْ لَا يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ.

تاریخ المدینۃ لابن شبہ: ج 3 ص 930 تحت مقتل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا: علی! آپ کے دل میں اس بارے میں کوئی بات نہیں آنی چاہیے کیونکہ میں نے خود بھی خوب غور و خوض کیا ہے اور لوگوں (اہل مدینہ) سے مشورہ بھی کیا ہے، (میری اور ان کی دیانتدارانہ رائے

یہ ہے کہ) وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ (افضیت کے پیش نظر) کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔

[6]: امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت ذکر کرتے ہیں:

فَلَمَّا أَخَذَ الْهَيْثَاقَ قَالَ: "ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُمَانُ!" فَبَايَعَهُ فَبَايَعَهُ لَهُ عَلَى وَجْهِ أَهْلِ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ.

صحیح البخاری: رقم الحدیث 3700

ترجمہ: اور جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے (دونوں سے) وعدہ لے لیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ (ہم سے بیعت لینے کے لیے) ہاتھ آگے بڑھائیں۔ (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہاتھ آگے بڑھایا) آپ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی اور اہل مدینہ آئے اور انہوں نے بھی (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی) بیعت کی۔

امام محمد بن سعد البغدادی رحمہ اللہ (ت 230ھ) روایت نقل کرتے ہیں۔
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ لِعُمَّانَ؛ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ."

الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ج 3 ص 45 ذکر بیعت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت سلمہ بن ابی سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ اپنے والد حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔

اپنے عہدِ خلافت میں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اتفاقِ رائے سے خلیفہ نامزد کر دیا گیا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے طرزِ خلافت کی ایک جھلک

1: پہلا خطبہ

امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری رحمہ اللہ (ت 310ھ) نقل کرتے ہیں:

فَإِنِّي قَدْ كَلَّفْتُ وَقَدْ قَبِلْتُ أَلَا وَإِنِّي مُتَّبِعٌ وَلَسْتُ بِمُتَّبَعٍ أَلَا وَإِنَّا لَكُمُ عَلَى بَعْدِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا إِتِّبَاعٌ مَنْ كَانَ قَبْلِي فِيمَا اجْتَمَعْتُمْ عَلَيْهِ وَسُنَّتُكُمْ وَسُنَّةُ أَهْلِ الْخَيْرِ فِيمَا لَمْ تَسْتَوْا عَنْ مَلَأَ وَالْكَفَّ عَنْكُمْ إِلَّا فِيمَا اسْتَوْجَبْتُمْ الْعُقُوبَةَ وَإِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ وَقَدْ شَهِيتُ إِلَى النَّاسِ وَمَالِ إِلَيْهَا كَيْفِيٌّ مِنْهُمْ فَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الدُّنْيَا وَلَا تَتَفَقَّهُوا فِيهَا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِشَقَّةٍ وَعَلِّمُوا أَتَّهَى غَيْرُ تَارِكَةٍ إِلَّا مَنْ تَرَكَهَا.

تاریخ الطبری: ج 4 ص 422 ذکر بعض خطب عثمان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: لوگو! مجھ پر خلافت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور میں نے اسے قبول کیا۔ میں پہلے لوگوں کی پیروی میں امورِ خلافت انجام دوں گا، ان سے ہٹ کر نہیں۔ (دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں متبع سنت ہوں مبتدع نہیں ہوں) قرآن و سنت پر عمل کرنے کے بعد تم سب کے میرے اوپر تین بنیادی حقوق ہیں:

1. میں پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی ان چیزوں میں اتباع کروں جن پر آپ لوگوں نے اتفاق و اجماع کر لیا ہے اور طریقہ متعین کر لیا ہے، اور آپ لوگوں نے اور

- اہل خیر نے جو طریقہ متعین کیا ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے متعین کروں۔
2. میں تم میں سے کسی پر کسی طرح کی کوئی زیادتی نہ کروں۔ الایہ کہ تم خود (کسی جرم کا ارتکاب کر کے) اپنے اوپر سزا کو لازم کر لو۔
3. دنیا (دیکھنے کے اعتبار سے) سرسبز و شاداب ہے اور لوگوں کی طرف لپک رہی ہے اور بہت سارے لوگ اس کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ لہذا آپ لوگ دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، اس پر اعتماد نہ کرنا کیونکہ یہ دنیا قابل اعتماد نہیں اور دنیا کسی کو چھوڑنے والی نہیں۔ ہاں کوئی خود اس سے کنارہ کش ہو جائے تو الگ بات ہے۔

2: والیان حکومت کے نام پہلا خط

امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری رحمہ اللہ (ت 310ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

كَانَ أَوَّلُ كِتَابٍ كَتَبَهُ عُثْمَانُ إِلَى عُمَايَةَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْأُمَمَةَ أَنْ يَكُونُوا رِعَاةً وَلَمْ يَتَقَدَّمْ إِلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا جُبَاةً وَإِنْ صَدَرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ خُلُقُوا رِعَاةً لَمْ يَخْلُقُوا جُبَاةً وَلْيُوشِكَنَّ أُمَّتُكُمْ أَنْ يَصِيرُوا جُبَاةً وَلَا يَكُونُوا رِعَاةً فَإِذَا عَادُوا كَذَلِكَ انْقَطَعَ الْحَيَاءُ وَالْأَمَانَةُ وَالْوَفَاءُ أَلَا وَإِنْ أَعْدَلَ السَّيْرَةِ أَنْ تَنْظُرُوا فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا عَلَيْهِمْ فَتُعْطَوْهُمْ مَا لَهُمْ وَتَأْخُذُوهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَتَنَبَّأُوا بِالْإِمَّةِ فَتُعْطَوْهُمْ الَّذِي لَهُمْ وَتَأْخُذُوهُمْ بِالَّذِي عَلَيْهِمْ ثُمَّ الْعَدُوَّ الَّذِي تَتَنَبَّأُونَ فَاسْتَفْتَيْتُ عَنْهُمْ بِالْوَفَاءِ

تاریخ الطبری: ج 4 ص 244 کتب عثمان رضی اللہ عنہ الى عماله

ترجمہ: سب سے پہلا خط جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے والیان حکومت کے نام تحریر کیا اس میں حمد و صلاۃ کے بعد لکھا: اللہ تعالیٰ نے والیان حکومت کو حکم فرمایا ہے کہ وہ (رعایا کے) نگہبان بنیں۔ صرف ٹیکس وصول کرنے والے نہ بنیں۔ اس امت کے

اولین لوگ نگہبان بنائے گئے تھے، ٹیکس وصول کرنے والے نہیں بنائے گئے تھے۔ (حالات کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ) آپ لوگوں کے امراء ٹیکس وصول کرنے والے بن جائیں گے اور نگہبان ہونے والی حیثیت کو برقرار نہ رکھ سکیں۔ (خدا نخواستہ) اگر ایسا ہو گیا تو حیا، امانت اور وفاداری ختم ہو جائے گی۔ معتدل طرز زندگی یہ ہے کہ آپ لوگ مسلمانوں کے مسائل میں غور و فکر کرو۔ ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو۔ اور ان کے ذمہ جو (ریاست کے) حقوق ہیں وہ ان سے وصول کرو۔ اس کے بعد ذمی لوگوں کے مسائل میں غور و فکر کرو ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو۔ اور ان کے ذمہ جو (ریاست کے) حقوق ہیں وہ ان سے وصول کرو۔ اس کے بعد دشمنوں کے مسائل میں غور و فکر کرو جن کے مقابلے میں آپ ڈٹے ہوئے ہو (اسلام اور اہل اسلام سے) وفاداری سے (ان کے خلاف) فتح حاصل کرو۔

3: خراج وصول کرنے والوں کے نام پہلا خط

امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری رحمہ اللہ (ت 310ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

وَكَانَ أَوَّلُ كِتَابٍ كَتَبَهُ إِلَى عُمَالِ الْخُرَاجِ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ بِالْحَقِّ، فَلَا يَقْبَلُ إِلَّا الْحَقَّ، خُذُوا الْحَقَّ وَأَعْطُوا الْحَقَّ بِهِ وَالْأَمَانَةَ الْأَمَانَةَ، قُومُوا عَلَيْهَا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ مَنْ يَسْلُبُهَا، فَتَكُونُوا شُرَكَاءَ مَنْ بَعْدَكُمْ إِلَى مَا اكْتَسَبْتُمْ وَالْوَفَاءَ الْوَفَاءَ، لَا تَظْلِمُوا الْيَتِيمَ وَلَا الْمُعَاهِدَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَصَمٌ لِمَنْ ظَلَمَهُمْ.

تاریخ الطبری: ج 4 ص 245 کتب عثمان رضی اللہ عنہ اہل عمالہ

ترجمہ: سب سے پہلا خط جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خراج وصول کرنے والوں کے نام تحریر کیا اس میں حمد و صلاۃ کے بعد لکھا: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو برحق طور پر پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ حق ہی کو قبول فرماتا ہے۔ حق لو اور لوگوں کو حق دو، امانت اور

راست بازی کا ہمیشہ خیال رکھو، پہلے پہلے امانت ضائع کرنے والے نہ بنو (کیونکہ آپ لوگوں سے پہلے اس امت میں یہ جرم کسی نے نہیں کیا) اس صورت میں آپ بعد والوں کے شریک جرم بن جاؤ گے، وفاداری اور ایقائے عہد کا خیال رکھو، نہ یتیم پر ظلم کرو اور نہ ہی معاہدہ (ذمی) پر کیونکہ مظلوم کا مدعی خود خدا ہوتا ہے۔

4: سپہ سالاروں کے نام پہلا خط

امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری رحمہ اللہ (ت 310ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

وَكَانَ أَوَّلُ كِتَابٍ كَتَبَهُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي الْفُرُوجِ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّكُمْ حُمَاةُ الْمُسْلِمِينَ وَذَادُهُمْ، وَقَدْ وَضَعَ لَكُمْ عُمَرُ مَا لَمْ يَغِبْ عَنْكَ، بَلْ كَانَ عَنْ مَلَأٍ مِثْلًا، وَلَا يَبْلُغُنِي عَنْ أَحَدٍ مِنْكُمْ تَغْيِيرٌ وَلَا تَبْدِيلٌ فَيُغَيِّرِ اللَّهُ مَا بِكُمْ وَيَسْتَبْدِلُ بِكُمْ غَيْرَكُمْ، فَانْظَرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ، فَإِنِّي أَنْظَرُ فِيمَا أَلَزَمَنِي اللَّهُ النَّظَرَ فِيهِ، وَالْقِيَامَ عَلَيْهِ.

تاریخ الطبری: ج 4 ص 245 کتب عثمان رضی اللہ عنہ الی امالہ

ترجمہ: سب سے پہلا خط جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سرحدوں پر موجود اسلامی افواج اور بالخصوص سپہ سالاروں کے نام تحریر کیا اس میں حمد و صلاۃ کے بعد لکھا: تم لوگ مسلمانوں کی حمایت اور ان کی طرف سے دفاع کا فریضہ سرانجام دے رہے ہو۔ تمہارے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو قوانین مقرر فرمائے تھے وہ ہم میں سے کسی پر مخفی نہیں بلکہ ہماری مشاورت سے بنائے گئے تھے۔ اس لیے مجھ تک یہ خبر نہیں پہنچنی چاہیے کہ تم نے ان قوانین میں رد و بدل سے کام لیا ہے اور اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے۔ اب تم خود فیصلہ کرو کہ تم نے کیسے بن کے رہنا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے

میں بھی اس کی ادائیگی کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔

5: عام رعایا کے نام ہدایات

امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری رحمہ اللہ (ت 310ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

وَكَانَ كِتَابُهُ إِلَى الْعَامَّةِ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا بَلَّغْتُمْ مَا بَلَّغْتُمْ بِالْإِقْتِدَاءِ وَالِاتِّبَاعِ، فَلَا تَلْفِتْنَكُمْ الدُّنْيَا عَنْ أَمْرِكُمْ، فَإِنَّ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ صَائِرٌ إِلَى الْإِبْتِدَاعِ بَعْدَ اجْتِمَاعِ ثَلَاثٍ فِيكُمْ: تَكْمُلُ النِّعَمَ، وَبُلُوغُ أَوْلَادِكُمْ مِنَ السَّبَابِيَا، وَقِرَاءَةُ الْأَعْرَابِ وَالْأَعَاجِمِ الْقُرْآنَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْكُفْرُ فِي الْعُجْبَةِ، فَإِذَا اسْتُعْجِمَ عَلَيْهِمْ أَمْرٌ تَكَلَّفُوا وَابْتَدَعُوا."

تاریخ الطبری: ج 4 ص 245 کتب عثمان رضی اللہ عنہ الی عمالہ

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عامۃ الناس کے نام ہدایات جاری فرمائیں اس میں حمد و صلاۃ کے بعد لکھا: آپ لوگ جس مقام پر پہنچے ہو وہ (اسلاف کی) اقتداء و تابعداری ہی سے پہنچے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہیں اس منہج سے دور کر دے۔ کیونکہ جب اس امت میں تین چیزیں جمع ہو جائیں گی تو اس کا معاملہ بدعت کی طرف چل پڑے گا۔ نعمتوں کی فراوانی، جنگی قیدی خواتین سے آپ کی اولاد کا بلوغت تک پہنچنا اور عجمیوں کی طرح (بغیر قواعد تجوید) قرآن کریم پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کفر عجمیوں میں ہے۔ جب ان پر کوئی معاملہ دشوار گزرتا ہے تو بدعت ایجاد کر لیتے ہیں۔

6: فوجیوں کے وظائف میں اضافہ

امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری رحمہ اللہ

(ت 310ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَوَّلُ خَلِيفَةٍ زَادَ النَّاسَ فِي أُعْطِيَا بِهِمْ مِائَةً
عُمَرَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فُجِرَتْ.

تاریخ الطبری: ج 4 ص 245 کتب عثمان رضی اللہ عنہ الی عمالہ

ترجمہ: حضرت عامر الشعمی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے فوجیوں کے وظائف میں سو سو درہم کے اضافہ کیا۔

7: ساحلی علاقوں کی مضبوطی

امام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلاذری رحمہ اللہ (ت 279ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرَانُ بْنُ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَأْمُرُهُ
بِتَحْصِينِ السَّوْاحِلِ وَشَحْنَتِهَا وَإِقْطَاعِ مَنْ يَنْزِلُ إِثَّاهَا الْقَطَائِعَ فَفَعَلَ.

فتوح البلد ان للبلاذری: ص 82 فتح مدینہ دمشق وارضہا

ترجمہ: جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں ساحلی علاقوں کو مضبوط بنانے اور حفاظتی دستے متعین کرنے کا حکم دیا۔ نیز جو لوگ ان علاقوں میں مقیم ہیں ان کے لیے وظائف اور جاگیریں مقرر کرنے کا بھی حکم دیا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان امور کو سرانجام دیا۔

8: بچوں کے وظائف

امام ابو عبد اللہ محمد بن سعد بن منیع البہاشی البغدادی رحمہ اللہ (ت 230ھ) روایت نقل کرتے ہیں۔

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَدِمَ جَدِّي الْحَيَّارُ عَلَى عُمَرَانَ فَقَالَ: كَمْ مَعَكَ

مِنْ عِيَالِكَ يَا شَيْخُ؟ فَقَالَ: إِنَّ مَعِيَ فَذَكَرَ فَقَالَ: أَمَّا أَنْتَ يَا شَيْخُ! فَقَدْ فَرَضْنَا لَكَ خُمْسَ عَشْرَةَ يَعْْنَى أَلْفًا وَخُمْسِيَّةً، وَلِعِيَالِكَ مِائَةً مِائَةً.

الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ج 6 ص 311 ترجمہ ابواسحاق السبئی رحمہ اللہ

ترجمہ: حضرت ابواسحاق (الہدانی) رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میرے دادا حضرت خیيار رحمہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ شیخ! آپ کے اہل و عیال کتنے افراد پر مشتمل ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اتنے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے لیے 1500 درہم جبکہ آپ کے اہل و عیال میں سے ہر ایک کے لیے ایک ایک سو درہم مقرر کر دیا ہے۔

فائدہ:

امام ابو یوسف یعقوب بن سفیان بن جوان الفارسی النسوی رحمہ اللہ (ت 277ھ) نے ”المعرفة والتاريخ“ میں لکھا ہے کہ ابواسحاق الہدانی رحمہ اللہ کے دادا خیيار رحمہ اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بتایا: إِنَّ مَعِيَ سِتِّينَ۔ کہ میرے پاس 60 لوگ رہتے ہیں۔

خیار اور ان کے اہل خانہ کے دراہم کو ملایا جائے تو وہ 7500 دراہم بنتے ہیں۔ حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ (ت 774ھ) روایت نقل فرماتے ہیں:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ جَدِّهِ - وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مُحْضَوْرٌ - فَوَلَدَتْ هِلَالًا، فَقَفَدَهَا يَوْمًا فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ وَلَدَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ غُلَامًا، قَالَتْ: فَأَرْسَلْتُ إِلَى بَحْمَسِينَ دِرْهَمًا وَشَقِيقَةً سُنْبُلَانِيَّةً، وَقَالَ: هَذَا عَطَاءُ ابْنِكَ وَكِسْوَتُهُ، فَإِذَا مَرَّتْ بِهِ سَنَةٌ رَفَعْنَاكَ إِلَى مِائَةٍ.

البدایہ والنہایہ لابن کثیر: ج 4 ص 229 تحت ذکر شیء من سیرتہ وہی دالہ علی فضیلتہ

ترجمہ: حضرت محمد بن ہلال رحمہ اللہ اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں۔ ان کی دادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایام محاصرہ میں آیا کرتی تھیں۔ کہ ان کے ہاں بیٹا ہلال پیدا ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دن ان کو اپنے ہاں نہ دیکھا (تو پوچھا کہ اس خاتون کا کیا بنا؟) آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے گزشتہ رات ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ محمد بن ہلال رحمہ اللہ کی دادی صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے میرے پاس پچاس درہم اور سنبلانی کپڑے بھیجے اور ساتھ یہ بھی کہلا بھیجا کہ یہ تیرے بیٹے کا وظیفہ اور کپڑا ہے۔ جب یہ ایک سال کا ہو جائے گا تو اس کا وظیفہ بڑھا کر سو درہم کر دیں گے۔

9: فتوحات

آپ رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں فتوحات کی دو قسمیں تھیں:

نمبر 1:

بعض ممالک جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں فتح ہو چکے تھے وہاں کے لوگوں نے بغاوت کی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دوبارہ فتح کیا۔ ان علاقوں میں آذربائیجان، آرمینیا، رے اور اسکندریہ کا نام قابل ذکر ہے۔ تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ میں ان علاقوں کا تفصیلاً ذکر ملتا ہے۔

نمبر 2:

وہ نئے علاقے جو پہلے فتح نہیں ہوئے تھے۔

ان علاقوں میں بلادِ روم اور قلعے، بلادِ مغرب، طرابلس، انطاکیہ، طرطوس، شمشاط، مَلَطِیَّہ، افریقہ، سوڈان، ماوراء النہر، ایشائے کوچک، ایران، ترکستان، اندلس، اِصطَخَر، قَنْسَرِیْن، قَبْرُص، فارس، سجستان، خراسان، مکران، طبرستان، قہستان، اَبِیْر

شَهْرٌ، طوس، بِيُورُو، حُمْرَان، سَرْحُس، بَهْتَق مرو، طالقان، مَرْوَرُوذ، فاریاب، طَخَارِستان، جوزجان، بلخ، هرات، بَاذَغِيْس، مَرْوَيْن وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سے ہر علاقے کی فتح کی تفصیل کتب تاریخ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔

گویا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایشیا، یورپ اور افریقہ کے بڑے بڑے ممالک فتح کیے۔ فارس و روم کی سیاسی قوت کا استیصال کیا اور روئے زمین کا بیشتر حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین آیا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے طرزِ فقہت کی ایک جھلک

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بہت سے مجتہدانہ فیصلے کیے جو آپ کی فقہت پر روشن دلیل ہیں۔ چند ایک کا مختصر مگر جامع تذکرہ پیش خدمت ہے:

1: جمع قرآن کے مراحل اور عثمانی مصحف

قرآن کریم کے جمع کے تین مراحل ہیں:

پہلا مرحلہ عہدِ نبوی ﷺ میں:

- (1): قرآن کریم کا جو حصہ نازل ہوتا اسے فوراً تحریر کر لیا جاتا۔
- (2): یہ تحریر کبھی جانور کے کندھے کی ہڈی پہ ہوتی، کبھی کاغذ پہ، کبھی چمڑے پہ، کبھی پتھر کی سلوں پہ اور کبھی بانس کے پارچوں پہ۔
- (3): قرآن مجید متفرق طور پر تحریر کیا گیا تھا لیکن ایک جلد میں جمع نہیں تھا۔ اس لیے سورتوں کی باقاعدہ ترتیب نہیں تھی۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً** ﴿۱﴾

سورة البقرة: 2

ترجمہ: (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے عظیم الشان رسول ہیں جو پاک صحائف کی تلاوت کرتے ہیں۔

فائدہ: یہ تبھی ممکن ہے کہ جب قرآن کریم کو صحائف میں لکھ لیا جاتا ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی مقرر تھے۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت نقل

کرتے ہیں:

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهَا نَزَلَتْ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ادْعُ لِي زَيْدًا وَلِيَجِيئَ بِاللُّوْحِ وَالذَّوَاةِ وَالْكَتِفِ أَوْ الْكَتِفِ وَالذَّوَاةِ ثُمَّ قَالَ: اكْتُبْ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَعْدُونَ﴾ الْآيَةَ

صحیح البخاری: رقم الحدیث 4990

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آیت کریمہ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ زید کو میرے پاس بھیجو، وہ تختی، دوات اور (کسی بڑے جانور کے) کندھے کی صاف ہڈی لے کر آئے۔ یا پھر یوں فرمایا کہ (کسی بڑے جانور کے) کندھے کی صاف ہڈی اور دوات لے کر میرے پاس آئے۔ (چنانچہ میں ان کو بلا کر لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے) فرمایا: لکھو! ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَعْدُونَ﴾

امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشافعی الطبرانی (ت 360ھ) روایت

نقل کرتے ہیں:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ أَخَذَتْهُ بُرْحَاءٌ شَدِيدَةٌ. وَعَرَقَ عَرَقًا شَدِيدًا مِثْلَ الْجُبَانِ. ثُمَّ سَرَى عَنْهُ، فَكُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهِ بِقِطْعَةِ الْكَتِفِ أَوْ كِسْرَةٍ فَأَكْتُبُ وَهُوَ يَمْلِي عَلَيَّ، فَمَا أَفْرَغُ حَتَّى تَكَادِرْ جِلِّي تَنَكُّيسُ مِنْ ثِقَلِ الْقُرْآنِ، وَحَتَّى أَقُولَ: لَا أَمْشِي عَلَى رَجْلِي أَبَدًا، فَإِذَا فَرَعْتُ قَالَ: "أَفْرَأَهُ"، فَأَقْرُوهُ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقَطٌ أَقَامَهُ، ثُمَّ أَخْرَجَ بِهِ إِلَى النَّاسِ.

المعجم الاوسط للطبرانی: ج 1 ص 518 رقم الحدیث 1913

ترجمہ: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو سخت گرمی لگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پسینہ آنے لگتا جیسے موتی ڈھل رہے ہوں۔ پھر یہ کیفیت ختم ہو جایا کرتی تو میں (کسی جانور کے) کندھے کی ہڈی یا (کسی چیز کا) کوئی ٹکڑا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے اور میں لکھ لیتا۔ میں جب تک قرآن مجید کی کتابت سے فارغ نہیں ہو جاتا تھا اس وقت تک قرآن کریم کے وزن کی وجہ سے مجھے یوں بوجھ محسوس ہوتا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی اور مجھے لگتا کہ میں اب اس ٹانگ پر کبھی چل بھی نہیں سکوں گا۔ خیر جب میں کتابت سے فارغ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے: ”اس کو پڑھو!“ میں اسے پڑھتا۔ اگر اس میں کوئی قابل اصلاح چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما دیتے اور اسے لوگ کے سامنے لاتے۔

حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر العسقلانی الشافعی رحمہ اللہ (ت 852ھ) فرماتے ہیں:

وَقَدْ كَانَ الْقُرْآنُ كُلُّهُ كُتِبَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ غَيَّرَ جُمُوعَ فِي مَوَاضِعٍ وَاحِدٍ وَلَا مَرَّتَبُ السُّورِ.

فتح الباری شرح صحیح البخاری: ج 9 ص 12 کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن
ترجمہ: قرآن کریم مکمل طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں لکھا گیا تھا لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھا اور نہ ہی (باضابطہ) سورتوں کی ترتیب پر مرتب تھا۔

دوسرا مرحلہ عہدِ صدیقی رضی اللہ عنہ میں:

(1): اس جمع کا محرک جنگِ یمامہ میں کثیر حفاظ کا شہید ہونا تھا۔ حضرت عمر رضی

اللہ عنہ کے بار بار کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کام پر راضی ہوئے۔

(2): کتابتِ قرآن کا یہ کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ (انصاری صحابی) کے سپرد کیا گیا۔ انہوں نے قرآنی آیات کو جانور کے کندھے کی ہڈی، کاغذ، چمڑے، پتھر کی سلوں، بانس کے پارچوں اور لوگوں کے سینوں سے جمع کیا۔

(3): یہ اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس جو آیت لکھی ہوئی ہے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس لائے۔

(4): حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ جو آیات لاتے تو آپ رضی اللہ عنہ پہلے اپنی یادداشت سے ان آیات کی توثیق کرتے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ توثیق کرتے، پھر ان آیات پر دو گواہ طلب کیے جاتے۔ جب گواہ گواہی دیتے تب ان آیات کو مصحف میں تحریر کیا جاتا۔

(5): قرآن مجید کو صرف کاغذ پر لکھا گیا۔

(6): مکمل ایک جگہ پر لکھ دیا گیا۔

(7): سورتوں کو باقاعدہ ترتیب دی گئی لیکن ہر سورت الگ الگ صحیفہ میں لکھی ہوئی تھی، تمام سورتیں ایک صحیفہ میں یکجا نہیں تھیں۔

(8): اس مصحف میں یہ ترتیب رکھی گئی کہ اگر کوئی لفظ لغتِ قریش اور دیگر قبائل کی لغات میں ایک جیسے رسم الخط پر لکھا جاتا ہو تو اسے ایک ہی رسم الخط پر لکھا گیا اور جہاں لغتِ قریش اور دیگر قبائل کی لغات میں فرق تھا تو سب لغات (لغتِ قریش اور دیگر قبائل کی لغات) کو باقی رکھا گیا۔

(9): اس کا ایک ہی نسخہ تیار ہوا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا اور ان کی شہادت کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہا۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت نقل

کرتے ہیں:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُرْسِلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَقْتُلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَاءِ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرْآنِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ لِعُمَرَ: كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ عُمَرُ: هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِذَلِكَ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ. قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا تَنْهَيْهِمْ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَّبِعُ الْقُرْآنَ فَاجْمَعُهُ. فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنْ أَمْرِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَتَتَّبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسْبِ وَاللِّعَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ الخ.

صحیح البخاری، رقم الحدیث 4986

ترجمہ: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے بعد مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلایا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا:

حضرت صدیق اکبر: حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ یمامہ کی جنگ میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اگر ایسے ہی

جنگلوں میں حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید کا بہت سارا حصہ ان کے سینوں ہی میں چلا جائے گا؛ اس لئے میری رائے یہ ہے آپ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ میں نے عمر سے کہا کہ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: خدا کی قسم! اس میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ مجھ سے بار بار اصرار کرتے رہے؛ بالآخر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا اور اب میری رائے بھی یہی ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا: تم نوجوان بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، عادل بھی ہو، ہم تم میں کسی طرح کی تہمت موجود نہیں پاتے اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبِ وحی بھی رہے ہو۔ لہذا تم قرآن کریم کی آیات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تلاش کرو اور ان کو جمع کرو۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم! اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم فرماتے تو یہ میرے لیے قرآن کریم جمع کرنے سے زیادہ آسان تھا۔

حضرت زید: آپ حضرات ایسا کام کیوں کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا؟

حضرت ابو بکر: قسم بخدا! یہ تو اچھا ہی کام ہے۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بارے میں مسلسل مجھ سے اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی طرح اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا۔ چنانچہ میں نے قرآن کریم کے اجزاء کو تلاش کرنا شروع کیا اور اسے کھجور کی شاخوں، باریک سفید پتھروں اور لوگوں کے سینوں سے اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر دیا۔

فائدہ:

یہ مصحف تیار ہو گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ چنانچہ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

صحیح البخاری، رقم الحدیث 4986

ترجمہ: (حضرت زید رضی اللہ عنہ کا تیار کردہ) یہ صحیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات تک آپ کے پاس رہا، پھر آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تحویل میں آگیا اور آپ کی شہادت کے بعد یہ آپ کی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس رہا۔

عہد نبوی اور عہد صدیقی کی کتابت قرآنی:

اس فرق کو ایک جدول میں پیش کیا جاتا ہے:

عہد نبوی کی کتابت قرآنی	عہد صدیقی کی کتابت قرآنی
مکمل ایک جگہ پر لکھا ہوا نہیں تھا	مکمل ایک جگہ پر لکھ دیا گیا
قرآن کریم مختلف اشیاء (کھجور کی شانخوں، سفید پتھروں کی سلوں، چمڑے کے پارچوں، بانس کے ٹکڑوں یا کسی بڑے جانور کے کندھوں کی صاف ہڈیوں وغیرہ) پر لکھا ہوا تھا۔	قرآن کریم کو صرف کاغذ پر لکھا گیا
سورتوں کی باقاعدہ ترتیب نہیں تھی	سورتوں کو باقاعدہ ترتیب دیا گیا

آیات کی باقاعدہ ترتیب نہیں تھی	آیات کو باقاعدہ ترتیب دیا گیا
--------------------------------	-------------------------------

فائدہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب قرآن کریم کو جمع کرایا تو اس میں قبائل کی مستقل لغات کو باقی رکھا۔

تیسرا مرحلہ عہدِ عثمانی رضی اللہ عنہ میں:

(1): اس جمع کا محرک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آرمینہ اور آذربائیجان کے محاذ پر جہاد میں مشغول تھے۔ انہوں نے وہاں لوگوں میں قراءتِ قرآن کے سلسلے میں اختلاف دیکھا۔

(2): حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ؛ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ اس اختلاف کی بابت عرض کی کہ اس صورت حال کو کنٹرول کیا جائے ورنہ آئندہ چل کر یہود و نصاریٰ کے اختلاف کی طرح ہو جائے گا جنہوں نے اپنی کتاب میں اختلاف کیا۔

(3): سات حروف جن پر قرآن نازل ہوا تھا عرب میں تو کم باعثِ اختلاف بنے لیکن جب اسلام پھیلا اور عجم میں پہنچا تو اب اختلاف زیادہ ہوا۔

(4): حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس قاصد بھیج کر وہ مصحف منگو الیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھا۔

(5): حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چار رکنی کمیٹی تشکیل دی:

۱: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ (انصاری صحابی)

۲: حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ (مہاجر قریش)

۳: حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ (مہاجر قریش)

۴: حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ (مہاجر قریش)

(6): اس کمیٹی کو حکم دیا کہ اس نسخہ کو (جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے منگوا یا گیا تھا) سامنے رکھ کر قرآن مجید کو جمع کریں۔

(7): جمع قرآنی کے سلسلے میں اسی طرز کو دوبارہ اختیار کیا گیا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اختیار کیا گیا تھا کہ لوگوں سے دوبارہ وہ آیات جمع کی گئیں جو ان کے پاس موجود تھیں۔ یہ حضرات پہلے اپنے حافظے سے ان آیات کی توثیق کرتے، پھر لوگوں سے اس پر گواہ طلب کرتے، پھر مصحف میں درج کرتے۔

(8): جہاں لغت قریش اور دیگر قبائل کی لغات میں اختلاف تھا ان کو مصحف میں ختم کر دیا گیا، صرف لغت قریش (مع رسم الخط) باقی رکھا گیا۔

(9): تمام سورتوں کو ایک صحیفہ میں مرتب کیا۔

(10): اس مصحف کے پانچ یا سات نسخے تیار کیے گئے جو مختلف شہروں میں بھیج دیے گئے۔

(11): حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو ان کا مصحف واپس کر دیا گیا۔

(12): یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس نسخہ کے علاوہ باقی نسخے جلادیے جائیں۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت نقل

کرتے ہیں:

إِنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يُغَارِضُ أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ إِدْمِيزِيَّةَ وَأَذْرَبِجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَفْرَعَ حُذَيْفَةُ اخْتِلَافَهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَدْرِكَ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يُخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسُخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرْدُهَا إِلَيْكَ فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ

وَسَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَذَسَّحُوها فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرُّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَأَكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلسَانِهِمْ، فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أَقْبَى بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ.

صحیح البخاری: رقم الحدیث 4987

ترجمہ: حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آرمینہ اور آذربائیجان کی فتح کے سلسلے میں شام کے غازیوں کے لیے جنگی و عسکری تیاریوں میں مصروف تھے تاکہ وہ اہل عراق کو ساتھ لے کر جنگ کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے اختلاف قراءات کے سلسلے میں بہت پریشان تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے (مدینہ آکر) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کی: اے امیر المومنین! اس سے پہلے کہ یہ امت بھی یہود و نصاریٰ کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کرے آپ اس معاملے کو سنبھالیے! (اور سارا واقعہ عرض کیا کہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے یوں کہہ رہے ہیں کہ میری قراءت آپ کی قراءت سے بہتر ہے) چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کی خدمت میں اپنا قاصد بھیجا کہ وہ صحائف (جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سرکاری طور پر جمع کرائے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے پاس ہیں) ہمیں دے دیجیے، ہم انہیں دیگر مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے وہ مصاحف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج

دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبدالرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ ان صحیفوں (جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سرکاری طور پر جمع کرائے تھے) کو مصاحف میں نقل کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تینوں قریشیوں کو فرمایا کہ جب آپ کا حضرت زید بن ثابت کے ساتھ کسی لفظ میں (قراءت مع رسم الخط) کا اختلاف ہو جائے تو اسے قریش کی لغت (مع رسم الخط) کے مطابق لکھنا۔ کیونکہ قرآن کریم (اولا) قریش کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ چنانچہ ان حضرات نے ایسا ہی کیا۔ جب تمام صحائف کو مختلف مصاحف میں نقل کر لیا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ سارے صحیفے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو واپس کر دیے اور ریاست مدینہ کے ماتحت سلطنتوں میں اس کا ایک ایک نسخہ بھیج دیا اور حکم دیا کہ اس کے علاوہ اگر قرآن کریم کسی صحیفے میں یا مصحف میں لکھا ہو تو اسے جلا دیا جائے۔

عہد صدیقی اور عہد عثمانی کی کتابت قرآنی:

امام ابوالحسن نور الدین علی بن محمد الملا الہرودی القاری رحمہ اللہ (ت 1014ھ) فرماتے ہیں:

كَانَ غَرَضُ الصِّدِّيقِ جَمْعَ الْقُرْآنِ بِجَمِيعِ أَحْرُفِهِ وَوُجُوهِهِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا
وَذَلِكَ عَلَى لُغَةِ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهَا وَكَانَ غَرَضُ عُثْمَانَ تَجْرِيدَ لُغَةِ قُرَيْشٍ مِنْ تِلْكَ
الْقِرَآءَاتِ.

مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح: ج 5 ص 107 کتاب فضائل القرآن

ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جمع قرآن کی غرض یہ تھی کہ جتنے حروف اور وجوہ پر قرآن نازل ہوا ہے چاہے وہ لغت قریش میں ہے یا لغت قریش کے

علاوہ میں تو ان سب کو جمع کر دیا جائے جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی غرض یہ تھی کہ اسے صرف لغت قریش میں باقی رکھا جائے، باقی لغات (مع رسم الخطوط) کو حذف کر دیا جائے۔

2: مسئلہ اتباع سلف

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نظریہ اور موقف یہ تھا کہ اہل اسلام کو قرآن و سنت کی پیروی اسلاف کی تعبیرات کی روشنی میں کرنی چاہیے۔ اس بارے میں ہر شخص کو فکری طور پر آزادی نہیں دینی چاہیے کہ وہ جس بات کو دین سمجھیں یا دین کی جس بات کی جو تعبیر ان کے ذہن میں آئے اسی پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نظریہ سلف کی اتباع کا تھا۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری رحمہ اللہ (ت 310ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

وَكَانَ كِتَابُهُ إِلَى الْعَامَّةِ: "أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا بَلَّغْتُمْ مَا بَلَّغْتُمْ بِالْإِقْتِدَاءِ وَالِاتِّبَاعِ، فَلَا تُلَفِّتْكُمُ الدُّنْيَا عَنْ أَمْرِكُمْ."

تاریخ الطبری: ج 4 ص 245 کتب عثمان رضی اللہ عنہ اہل عمالہ

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عامۃ الناس کے نام ہدایات جاری فرمائیں اس میں حمد و صلاۃ کے بعد لکھا: آپ لوگ جس مقام پر پہنچے ہو وہ (اسلاف کی) اقتداء و تابعداری ہی سے پہنچے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہیں اس منہج سے دور کر دے۔ نیز آپ رضی اللہ عنہ خود بھی اسی منہج پر گامزن تھے۔

چنانچہ امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری رحمہ اللہ (ت 310ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

أَلَا وَإِنَّ لَكُمْ عَلَى بَعْدِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ثَلَاثًا: اِتْبَاعُ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ قِيَامًا اجْتَمَعَتْهُمْ عَلَيْهِ.

تاریخ الطبری: ج 4 ص 422 ذکر بعض خطب عثمان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا) قرآن و سنت پر عمل کرنے کے بعد تم سب کے میرے اوپر تین بنیادی حقوق ہیں: پہلا یہ ہے کہ میں پیشرو لوگوں کی ان چیزوں میں اتباع کروں جن پر آپ لوگوں نے اتفاق و اجماع کر لیا ہے۔

3: ترک قراءۃ خلف الامام

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مقتدی امام کے پیچھے قراءت نہ کرے۔ اس لیے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح آپ رضی اللہ عنہ بھی امام کے پیچھے قراءت کرنے سے سختی سے منع فرماتے تھے۔

چنانچہ علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد بن موسیٰ العینی الغیتابی الحنفی رحمہ

اللہ (ت 855ھ) روایت ذکر کرتے ہیں:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَشْرَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَشَدَّ النَّهْيِ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعُمَرُ الْفَارُوقُ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.

عمدة القاری شرح صحیح البخاری: ج 4 ص 449 باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم

ترجمہ: عبد اللہ بن زید بن اسلم اپنے والد (حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ) سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امام کے پیچھے (مقتدی کو) قراءت کرنے سے سختی سے روکتے تھے، اور وہ یہ حضرات ہیں: حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب،

عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم۔

4: جمعہ کی اذان ثانی

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے دور میں نماز جمعہ کے لیے صرف ایک اذان دی جاتی تھی۔ جو آج کل ”دوسری اذان“ کہلاتی ہے یعنی وہ اذان جو موزن امام کے سامنے کھڑے ہو کر دیتا ہے اور اس کے بعد عربی خطبہ دیا جاتا ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا اور مسلمانوں کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا تو آپ کے اجتہادی حکم سے اذان ثانی شروع ہوئی جسے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قبول کیا جو آج تک جاری و ساری ہے۔

امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت ذکر کرتے ہیں:

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ يَقُولُ: إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلَهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرُوا أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزُّوْرَاءِ فَثَبَّتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

صحیح البخاری: رقم الحدیث 916

ترجمہ: حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانوں میں جمعہ کی اذان اس وقت ہوتی جب امام منبر پر بیٹھ جاتا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا اور لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے (اجتہادی) حکم دیا کہ زوراء نامی جگہ پر تیسری اذان دی جائے۔ اذان کا یہ طریقہ مستقل طور پر رائج

ہو گیا۔ (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی اس اذان پر اعتراض نہیں کیا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس اذان کی صحت پر اجماع ہے جس کی مخالفت جائز نہیں۔)

فائدہ: حدیث مبارک میں اس اذان کو تیسری اذان اس لیے کہا گیا ہے کہ جمعہ کے نماز کے لیے ایک اذان اور (اکثر الفاظ اذان پر مشتمل) ایک اقامت پہلے سے موجود تھی۔ اس اعتبار سے حدیث مبارک میں اسے تیسری اذان کہا گیا ہے۔

5: مسئلہ بیس تراویح

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں رمضان المبارک کے پورے مہینے میں بیس رکعات تراویح پڑھی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بھی باوجود مجتہد ہونے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مجتہدانہ فیصلے (جو کہ بصورت اجماع منعقد ہو چکا تھا) کی موافقت فرمائی۔

امام ابو بکر احمد بن الحسین بن علی البیہقی رحمہ اللہ (ت 458ھ) روایت نقل

کرتے ہیں:

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ: كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً - قَالَ - وَكَانُوا يَقْرَأُونَ بِالْبَيْتَيْنِ، وَكَانُوا يَتَوَكَّنُونَ عَلَى عَصِيْبِهِمْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ.

السنن الکبریٰ للبیہقی: ج 2 ص 496، باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شهر رمضان

ترجمہ: حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیس رکعات تراویح پڑھتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لمبے قیام کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں پر سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے طرزِ عبادت کی ایک جھلک

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی زاہدانہ تھی۔ دنیا کے اسباب موجود ہونے کے باوجود آپ کے دل میں دنیا نہیں تھی بلکہ ہر وقت عبادت میں مصروف اور فکرِ آخرت میں مگن رہتے تھے۔ اس کی ایک جھلک پیش خدمت ہے:

1: ایک رکعت میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشافعی الطبرانی رحمہ اللہ (ت 360ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْدِينَ، قَالَ: قَالَتْ امْرَأَةٌ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "إِنَّهُ كَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ كُلَّهَا فِي رَكْعَةٍ يَجْمَعُ فِيهَا الْقُرْآنَ."

المعجم الكبير للطبرانی: ج 1 ص 50 رقم الحديث 128

ترجمہ: امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ (سیدہ نائلہ) رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ساری رات عبادت کرتے ہیں جس میں ایک ہی رکعت میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے ہیں۔

حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ (ت 774ھ) فرماتے ہیں:

عَنْ يَحْيَى الْبُكَاءِ رَحِمَهُ اللَّهُ [أَنَّهُ قَالَ]: إِنَّهُ زُجِمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ. تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ج 4 ص 96 تحت الآية ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِثَ الْأَنَاءِ﴾
ترجمہ: حضرت یحییٰ البکاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کبھی کبھار ایک ہی رکعت میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔

امام ابو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن ابی بکر

بن ابراہیم العراقی رحمہ اللہ (ت 806ھ) فرماتے ہیں:

وَأَحَدُ مَنْ أَحْيَا اللَّيْلَ بِرُكْعَةٍ قَرَأَ فِيهَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ.

طرح التزیب فی شرح التقریب: ج 1 ص 82 ترجمہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جو ساری ساری رات عبادت کیا کرتے جس میں ایک ہی رکعت میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت فرمالیا کرتے تھے۔

2: روزوں کی کثرت

امام شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ (ت 748ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَصُومُ الدَّهْرَ.

تاریخ الاسلام للذہبی: ج 3 ص 476 ترجمہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت زبیر بن عبد اللہ رحمہ اللہ اپنی دادی سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ (تقریباً) سارا سال روزے رکھا کرتے تھے۔

فائدہ:

شریعت اسلامیہ میں پانچ دن روزے رکھنا ممنوع ہے اور وہ دن یہ ہیں: عید الفطر (یکم شوال المکرم) عید الاضحیٰ کے تین دن (دسویں، گیارہویں اور بارہویں ذوالحجہ) اور ان کے بعد ایک دن یعنی تیرہویں ذوالحجہ۔ انہی دنوں کو ایام ممنوعہ یا ”ایام مَنعِیَّہ“ کہتے ہیں۔

3: مسلسل دس حج

امام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلاذری رحمہ اللہ (ت 279ھ) روایت

نقل کرتے ہیں:

حَجَّ عُمَانٌ فِيْ خِلَافَتِهِ كُلَّهَا عَشْرَ سِنَيْنِ إِلَى السَّنَةِ الَّتِي حُوِّصَ فِيْهَا.

انساب الاشراف للبلاذری: ج 5 ص 1510 امر الشوریٰ و بیعة عثمان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں مسلسل دس سال تک حج کیے سوائے آخری محاصرے والے سال کے۔

4: صلہ رحمی

صلہ رحمی میں بھی آپ کا مقام بہت بلند ہے۔

امام ابو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن ابی بکر بن ابراہیم العراقی رحمہ اللہ (ت 806ھ) روایت نقل فرماتے ہیں:

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ أَوْصَلَنَا لِلرَّحِمِ.

طرح التتزیب فی شرح التقریب: ج 1 ص 82 ترجمہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔

امام ابو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن ابی بکر بن ابراہیم العراقی رحمہ اللہ (ت 806ھ) روایت نقل فرماتے ہیں:

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِنَّهُ لَيَنْ أَوْصَلَهُمُ لِلرَّحِمِ وَأَتْقَاهُمْ لِرَبِّهِ.

طرح التتزیب فی شرح التقریب: ج 1 ص 82 ترجمہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت) فرمایا: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔

5: تواضع و انکساری

بہت بڑی سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود ایک غلام کی دعوت پر تشریف لے گئے۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

صحیح البخاری، تحت کتاب الاحکام باب اجابة الحاكم الدعوة

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ایک غلام کی دعوت کو قبول فرمایا۔

6: خشیت الہی

امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ (ت 273ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ هَانِيٍّ مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ يَبْنَى حَتَّى يَبْلُغَ الْحَيَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَلَا تَبْكِي، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ."

سنن ابن ماجہ: رقم الحدیث 4267

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو بہت روتے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ عنہ سے

پوچھا جاتا کہ جب آپ جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ (اس قدر) نہیں روتے جبکہ قبر کو دیکھ کر بہت روتے ہیں، (اس کی کیا وجہ ہے؟) آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبر؛ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے اگلی منزلیں بھی آسان ہوں گی اور جو اس میں ناکام ہو گیا تو اس کے لیے اگلی منزلیں بھی مشکل ہوں گی۔

قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے محرکات و اسباب

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے اسباب سے متعلق اسلامی تاریخ کے سینکڑوں صفحات پر پھیلی ہوئی ایک حقیقت ہے جسے اجمالی طور پر نمبر وار بیان کرنے پر اکتفاء کیا جا رہا ہے۔

نمبر 1: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں فتوحات کے دروازے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کھل گئے۔ مال غنیمت میں فراوانی ہوئی، لوگوں کے ہاتھ مال و دولت سے بھر گئے جس نے مسلمانوں میں وہ لوازم و اثرات پیدا کیے جو ہر قوم میں ایسی حالت میں پیدا ہو جاتے ہیں جو آخر کار انحطاط اور ضعف کا سبب بنتے ہیں۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ: إِنِّي هَذَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا.

صحیح البخاری، رقم الحدیث 1465

ترجمہ: حضرت عطاء بن یسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ ہم لوگ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں آپ لوگوں سے متعلق اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کی خوشحالی اور اس کی زیب و زینت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔

حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ

(ت 774ھ) فرماتے ہیں:

عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: أَدْرَكْتُ عُثْمَانَ عَلَى مَا نَقَمُوا عَلَيْهِ. قَلْبًا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُمْ يَقْتَسِمُونَ فِيهِ خَبِيرًا، يُقَالُ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ اغْدُوا عَلَى أَعْطِيَاتِكُمْ، فَيَأْخُذُونَهَا وَافِرَةً، ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ: اغْدُوا عَلَى أَرْزَاقِكُمْ فَيَأْخُذُونَهَا وَافِرَةً، ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ اغْدُوا عَلَى السَّيْنِ وَالْعَسَلِ، الْأَعْطِيَاتِ جَارِيَةٍ، وَالْأَرْزَاقِ دَارَةً، وَالْعَدُوُّ مُتَقَيٍّ، وَذَاتُ الْبَيْتِ حَسَنٌ، وَالْخَيْرُ كَثِيرٌ..... قَالَ الْحَسَنُ: فَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حِينَ رَأَوْهَا لَوَسَّعَهُمْ مَا كَانُوا فِيهِ مِنَ الْعَطَاءِ وَالرِّزْقِ وَالْخَيْرِ الْكَثِيرِ، بَلْ قَالُوا: لَا وَاللَّهِ مَا نَصَابِرُهَا..... وَالْأُخْرَى كَانَ السَّيْفُ مُغَمَّدًا عَنِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَسَلُّوهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، فَوَاللَّهِ مَا زَالَ مَسْلُولاَ إِلَى يَوْمِ النَّاسِ، هَذَا وَآيَمُ اللَّهِ إِيَّيَّيْ لَأَرَاهُ سَيْفًا مَسْلُولاَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

البدایۃ والنہایۃ لابن کثیر: ج 4 ص 229 ذکر شیء من سیرتہ وہی دالہ علی فضیلۃ

ترجمہ: حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: باوجودیکہ لوگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں لیکن میں نے آپ کا دورِ خلافت پایا ہے۔ (آپ کے دور میں وسعت مالی کا یہ عالم تھا کہ) لوگوں پر ایسا دن بہت کم ہی گزرتا تھا جس میں ان میں مال نہ تقسیم ہوتا ہو۔ (خليفة وقت کی طرف سے) اعلان کیا جاتا تھا کہ اے گروہِ مسلمین! آؤ اپنے عطیات (دو وظائف) لے جاؤ۔ چنانچہ لوگ وافر مقدار میں اموال لے جاتے۔ کبھی یہ اعلان ہوتا کہ آؤ اپنی خوراک لے جاؤ تو لوگ وافر مقدار میں خوراک لے جاتے۔ کبھی اعلان ہوتا کہ آؤ گھی اور شہد لے جاؤ۔ الغرض عطیات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا تھا، رزق کی فراوانی تھی، دشمن سے حفاظت رہتی تھی، مسلمانوں کے باہمی تعلقات اچھے تھے اور خیر و بھلائی بہت زیادہ تھی۔ جو ان سے (یعنی

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے) ملتا تو آپ کو اپنا بھائی پاتا۔ یہ سب آپ رضی اللہ عنہ کی الفت، خیر خواہی اور محبت ہی (کی برکت) تھی۔ ان لوگوں کو یہ وصیت کی گئی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب (لوگوں میں) خود پسندی اور خود غرضی پیدا ہو جائے گی، جب ایسا ہو تو صبر سے کام لینا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر یہ لوگ صبر کر لیتے جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تھی تو ان کے عطیات، رزق اور خیر و بھلائی ان کے لیے کافی و وافی ہو جاتی لیکن انہوں نے کہا کہ واللہ! ہم صبر نہیں کریں گے۔ قسم بخدا! (اس بے صبری کا نتیجہ یہ نکلا کہ) انہوں نے نہ کچھ پایا نہ سلامت رہے۔ دوسری چیز کہ (جس نے ان کی سلامتی کو نقصان پہنچایا وہ یہ تھی کہ پہلے تو ان کی) تلوار مسلمانوں کے خلاف نہیں اٹھتی تھی لیکن انہوں نے یہ تلوار ایک دوسرے پر سونت لی۔ واللہ! یہ تلوار اب لوگوں پر سونتی ہی رہے گی اور قسم بخدا! میں یہ تلوار قیامت تک سونتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔

نمبر 2: جنگی لونڈیوں سے پیدا ہونے والی مسلمانوں کی اولادیں بڑی ہو گئی تھیں۔ جن میں آزاد خیالی اور تقیش پرستی عام ہونے لگی۔

امام شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ (ت 748ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

أَوَّلُ مَنْ كَرَّ ظَهَرَ بِالْمَدِينَةِ طَيْرَانُ الْحَمَامِ وَالرَّحْمَى..... فَأَمَرَ عُثْمَانُ رَجُلًا فَقَصَّهَا وَكَسَرَ الْجُلَاهِقَاتِ.

تاریخ الاسلام للذہبی: ج 3 ص 476 ترجمہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: پہلی برائی جو ریاست مدینہ میں (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں) ظاہر ہوئی وہ کبوتر بازی اور غلیل بازی تھی..... حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو مقرر کیا جو لوگوں کو ان کاموں سے سختی سے منع کرتا اور غلیلین توڑ دیتا۔

اس طرح کے لوگ جب کسی جرم میں پکڑے جاتے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو سزا دیتے اور اپنی صوابدید پر اکثر کو جلاوطن کر دیتے۔ یہ لوگ انتقامی جذبے سے زندگیاں گزار رہے تھے۔ بعد میں یہی لوگ قتل عثمان رضی اللہ عنہ میں پیش پیش رہے۔

نمبر 3: مراکش سے کابل تک کا علاقہ اسلام کے زیر نگین تھا۔ وہاں جو کافر قومیں (یہود و مجوس) موجود تھیں وہ محکوم تھیں۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف عداوت کا جذبہ پایا جاتا تھا لیکن عسکری طاقت کے زور پر مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے تھے اس لیے انہوں نے سازشوں کے جال بچھائے جس کے نتیجے میں قتل عثمان رضی اللہ عنہ کا دلخراش سانحہ رونما ہوا۔

نمبر 4: حکومت کے اہم مناصب پر قریشی لوگ فائز تھے۔ نوجوان قریشی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں عہدوں پر موجود تھے ان سے دوسرے قبائل کے لوگوں میں حسد پیدا ہوا کہ ملکی فتوحات میں ہماری تلواروں کی کمائی بھی شامل ہے اس لیے مناصب اور عہدوں پر ہمیں بھی مساوات چاہیے۔ کچھ ہی عرصے میں اسی حسد نے قتل عثمان رضی اللہ عنہ کی صورت اختیار کر لی۔

نمبر 5: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فطرتاً ہی مروت اور نرم خو انسان تھے۔ عموماً لوگوں سے سختی کا برتاؤ نہیں کرتے تھے اس وجہ سے بھی شریروں کے حوصلے بلند ہوئے۔ بعد میں انہی شریروں نے بے خوف ہو کر قاتلین عثمان کا ساتھ دیا اور قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے دلدوز صدمے سے امت کو دوچار ہونا پڑا۔

نمبر 6: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اموی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے فطری جذبات اپنے خاندان کے لیے خیر خواہانہ تھے۔ اپنے ذاتی اموال سے ان کی

امداد کرتے اور ہدایا و تحائف سے نوازتے۔ شریکوں نے اس نیکی کو غلط رنگ دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اقرباء پروری کرتے ہوئے سرکاری بیت المال سے انہیں مال و دولت دیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے بعض لوگوں میں یہ جذبات پیدا ہوئے کہ ایسے شخص کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔

نمبر 7: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں کو جن علاقوں میں عامل اور حاکم مقرر فرمایا تھا وہاں کے لوگ جب جرائم کرتے تو حکام ان پر حدود و قصاص جاری کرتے، تعزیرات کا نفاذ ہوتا۔ بالخصوص بصرہ، کوفہ اور مصر کے جرائم پیشہ لوگوں نے ان حکام کے خلاف تنظیمیں بنائیں، حکام کو معزول کرانے کے لیے خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جسے آپ نے کسی صورت قبول نہ کیا۔ بعد میں یہی لوگ اپنے علاقوں سے مدینہ پہنچے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔

نمبر 8: سبائی فتنہ پیش پیش رہا۔ جس کا بانی عبد اللہ بن سبا تھا۔ اس کا تعلق یمن سے تھا، یہودی تھا، تقیہ اور جھوٹ کی بنیاد پر اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا۔ اس کے چند معتقدات یہ ہیں:

(1): لوگوں پر تعجب ہے کہ وہ یہ تو جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دنیا میں لوٹ آئیں گے (یعنی ان کی رجعت ہوگی) لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رجعت کی تکذیب کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں ہے:

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأٰكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ط﴾

سورۃ القصص: رقم الآیۃ: 85

ترجمہ: جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ پر لانے والا ہے۔

فائدہ: آیت کریمہ کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس مکہ لائیں گے جہاں سے نکلنے اور ہجرت پر لوگوں نے آپ کو مجبور کیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر اس کا ظہور بھی ہو چکا ہے۔

(2): ہزار ہا انبیاء گزرے ہیں اور ہر نبی نے اپنا ایک وصی (جس کے بارے میں اس نے اپنے جانشین ہونے کی وصیت کی ہو) چھوڑا ہے۔ اور علیؑ؛ محمد کے وصی ہیں۔ محمد خاتم الانبیاء اور علی خاتم الاوصیاء ہیں۔

(3): بھلا بتاؤ! اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو نافذ نہ ہونے دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کی کرسی پر کود کر بیٹھ جائے اور خلافت کو ناجائز طریقے سے اپنے ہاتھ میں لے لے۔

اپنے مذکورہ بالا معتقدات فاسدہ و باطلہ کی بنیاد پر اس نے لوگوں کی ذہن سازی شروع کی کہ اٹھو! اس نظام کو بدلو، عثمان کی طرف سے جو امراء مقرر ہیں ان پر طعن و تنقید شروع کرو۔ اپنی اس غلط اور باطل کوشش کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام دو۔ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو اور انہیں دعوت دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں اس کی تحریک کے زیادہ اثرات پائے جاتے ہیں۔

نمبر 9: یہی عبد اللہ بن سبا اپنے مزعومہ و مذمومہ عقائد و نظریات کی دعوت دینے دیہاتوں میں پھرا، بعض قبائل کے لوگوں کو وہاں کے عاملین و حکام کے خلاف بھڑکایا اور آخر کار مصر پہنچا۔ وہاں اپنی باتوں کو پھیلا یا، مصری لوگ اس فتنے کا شکار ہوئے اور قتل عثمان میں پیش پیش رہے۔

نمبر 10: دیگر محرکات و عوامل کے ساتھ ساتھ عبد اللہ بن سبا کی محنت سے تیار شدہ فساد کی لوگ بصرہ، کوفہ اور مصر سے حج کے دنوں میں حجاج کے قافلوں کے ساتھ نکلے، مکہ جانے کے لیے انہیں مدینہ منورہ کا راستہ پڑتا تھا۔ بصرہ سے چار فرقوں پر مشتمل

ایک فسادی گروہ تھا جس کی تعداد ایک ہزار تھی، کوفہ سے چار فرقوں پر مشتمل ایک فسادی گروہ تھا جس کی تعداد ایک ہزار تھی، مصر سے چار فرقوں پر مشتمل ایک فسادی گروہ تھا جس کی تعداد ایک ہزار تھی۔ انہوں نے اپنے اپنے مراکز میں یہ بات آپس میں طے کی کہ ہم حجاج کرام کے قافلوں کے ساتھ روانہ ہوں گے، مدینہ پہنچ کر ہم ان حاجیوں کا ساتھ چھوڑ دیں گے، کوفہ بصرہ اور مصر کے حجاج مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے اور خود اہل مدینہ کی خاطر خواہ تعداد حج کے لیے مکہ چلے جائے گی جس کی وجہ سے مدینہ میں زیادہ لوگ موجود نہیں ہوں گے۔ اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کریں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ شوال 35 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ

فسادی لوگ مدینہ میں پہنچ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ کافی دنوں تک محاصرہ جاری رہا۔ اس دوران آپ کا کھانا وغیرہ بند کر دیا گیا۔ باہر سے کوئی شخص اندر کوئی چیز نہیں بھیج سکتا تھا۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی مشکل سے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس پانی پہنچایا۔

امام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلاذری رحمہ اللہ (ت 279ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: حَصَرَ عُثْمَانُ حَتَّى كَانَ لَا يَشْرَبُ إِلَّا مِنْ فَقِيرٍ فِي دَارِهِ. فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ فَقُلْتُ: أَرْضَيْتَ بِهَذَا أَنْ يُحْصَرَ ابْنُ عَمَّتِكَ حَتَّى وَاللَّهِ مَا يَشْرَبُ إِلَّا مِنْ فَقِيرٍ فِي دَارِهِ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَوْ قَدْ بَلَّغُوا بِهِ هَذِهِ الْحَالِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَعَمِدَ إِلَى رَوَاقِ مَاءٍ فَأَدْخَلَهَا إِلَيْهِ فَسَقَا.

انساب الاشراف للبلاذری: ج 5 ص 568 امر الشوریٰ و بیعة عثمان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس طرح محصور کر دیا گیا کہ پانی پینے کو نہیں تھا، اپنی حویلی کے ایک فقیر سے پانی لے کر پیتے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی: کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کے پھوپھی زاد اس حالت میں محصور ہیں کہ انہیں پانی تک نہیں مل رہا اور وہ اپنی حویلی کے ایک فقیر سے لے کر پی رہے ہیں!! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے (ازراہ تعجب و تاسف) فرمایا: سبحان اللہ! کیا ان لوگوں نے انہیں اس حال تک پہنچا دیا ہے؟ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: بالکل، انہوں نے یہی حال کر دیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جانوروں پر پانی بھیج کر انہیں پانی پلانے کا انتظام فرمایا۔

امام ابو زید عمر بن شبہ بن عبیدہ بن ربیعہ النمیری البصری رحمہ اللہ
(ت 262ھ) ایک اور روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: أَشْرَفَ عُمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى النَّاسِ
وَهُوَ مَحْضُورٌ فَقَالَ: أَفِيكُمْ عَلِيٌّ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: أَفِيكُمْ سَعْدٌ؟ قَالُوا: لَا.
فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَحَدٌ يُبَلِّغُ فَيَسْقِينَا مَاءً؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِثَلَاثِ قِرَبٍ مَمْلُوءَةٍ فَمَا كَادَتْ تَصِلُ إِلَيْهِ حَتَّى جُرِحَ فِي سَبَبِهَا عِدَّةٌ
مِنْ مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ وَمَوَالِي بَنِي أُمَيَّةَ حَتَّى وَصَلَتْ إِلَيْهِ.

تاریخ المدینۃ لابن شبہ: ج 4 ص 1304 تحت رجوع اہل مصر بعد شومصم

ترجمہ: حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عثمان
رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں نظر بند تھے۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیوار
سے جھانک کر فرمایا کہ کیا آپ لوگوں میں علی موجود ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ
نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا سعد موجود ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر آپ
کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا: کیا کوئی (مجھ تک) پانی پہنچا سکتا
ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا۔ انہوں نے آپ کی طرف پانی سے
بھرے ہوئے تین مشکیزے بھیجے۔ پانی کا پہنچنا مشکل ہو رہا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ
عنہ تک پانی پہنچاتے پہنچاتے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے بہت سے خدام زخمی ہوئے۔

دشمنوں کے سامنے اپنی حیثیت واضح فرمائی:

حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ

(ت 774ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

إِنِّي رَابِعٌ أَرْبَعَةٍ فِي الْإِسْلَامِ وَلَقَدْ أَنْكَحَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ ثُمَّ تُوَفِّيتُ فَأَنْكَحَنِي ابْنَتُهُ الْأُخْرَى، وَلَا زَنْبُتُ وَلَا سَرَقْتُ فِي

جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا تَعَيَّنْتُ وَلَا تَمَنَّيْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا مَسَسْتُ فَرْجِي
يَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ جَمَعْتُ الْقُرْآنَ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَتَتْ عَلَى جُمُعَةٍ إِلَّا وَأَنَا أُعْتَقُ فِيهَا
رَقَبَةً مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا أَنْ لَا أَجِدَهَا فِي تِلْكَ الْجُمُعَةِ فَأَجْمَعُهَا فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ.

البدایۃ والنہایۃ لابن کثیر: ج 4 ص 194 ذکر حصر امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ) میں چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح اپنی بیٹی (سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا) سے کرایا، جب وہ وفات پا گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سے میرا نکاح فرمایا۔ میں نے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں نہ کبھی زنا کیا، نہ کبھی چوری کی، نہ گانا گایا۔ نہ کبھی مسلمان ہونے کے بعد دین سے پھرنے کی تمنا کی اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں قرآن کریم کی کتابت کی ہے۔ قبول اسلام کے بعد میری زندگی میں کوئی جمعہ ایسا نہیں آیا جس میں کوئی غلام آزاد نہ کیا ہو۔ اگر کسی جمعہ غلام نہ ہوتا تو آئندہ جمعہ کو دو غلام آزاد کرتا تھا۔

ایام محاصرہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مبارک جذبہ:

باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ چالیس دن تک رہا۔ ان دنوں میں آپ مسجد بھی نہیں جاسکے۔ اس دوران بہت سارے جانثاروں نے آپ سے اجازت طلب کی۔

1: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

امام ابو زید عمر بن شبہ بن عبیدہ بن ربیعہ النعمیری البصری رحمہ اللہ

(ت 262ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

أَرْسَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ: إِنَّ مَعِيَ خَمْسَ مِائَةِ دَارِعٍ فَأَذِنَ لِي
فَأَمْنَعَكَ مِنَ الْقَوْمِ، فَإِنَّكَ لَمْ تُحَدِّثْ شَيْئًا بَعْدَ التَّوْبَةِ يُسْتَحَلُّ بِهِ دَمُكَ.
فَقَالَ: "جَزَيْتَ خَيْرًا، مَا أَجِبْتُ أَنْ يُهْرَاقَ دَمٌ بِسَبِي".

تاریخ المدینۃ لابن شبہ: ج 4 ص 1149 تحت رجوع اہل مصر بعد شحوصہم

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ میرے پاس پانچ سو (500) زرہ پوش نوجوان موجود ہیں۔ آپ مجھے اجازت دیں، میں ان لوگوں (بلوایوں) کو آپ سے مار بھگاؤں گا۔ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کو قتل کرنا جائز ہو گیا ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری خاطر (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں) خون بہایا جائے۔

2: حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ

امام ابو زید عمر بن شبہ بن عبیدہ بن ربیعہ النمیری البصری رحمہ اللہ
(ت 262ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِثْلِهَا. فَقَالَ: "مَا
أُجِبْتُ أَنْ يُهْرَاقَ دَمٌ فِي سَبِي".

تاریخ المدینۃ لابن شبہ: ج 4 ص 1149 تحت رجوع اہل مصر بعد شحوصہم

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی پیش کش حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری خاطر (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں) خون بہایا جائے۔

3: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ

امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل البغدادی رحمہ اللہ (ت 241ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مُحْضُورٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ الْعَامَّةِ، وَقَدْ نَزَلَ بِكَ مَا تَرَى، وَإِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْكَ خِصَالًا ثَلَاثًا، اخْتَرْتُ إِحْدَاهُنَّ: إِمَّا أَنْ تَخْرُجَ فُتُقَاتِلَهُمْ، فَإِنَّ مَعَكَ عَدَدًا وَقُوَّةً، وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ، وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ، وَإِمَّا أَنْ تُخْرِقَ لَكَ بَابًا سِوَى الْبَابِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ، فَتَقْعُدَ عَلَى رَوَاجِلِكَ، فَتَلْحَقَ بِمَكَّةَ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْتَجْلُوكَ وَأَنْتَ بِهَا، وَإِمَّا أَنْ تَلْحَقَ بِالشَّامِ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ الشَّامِ، وَفِيهِمْ مُعَاوِيَةُ.

فَقَالَ عُثْمَانُ: أَمَّا أَنْ أَخْرُجَ فَأُقَاتِلَ، فَلَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ خَلَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْتِهِ بِسَفْكِ الدِّمَاءِ، وَأَمَّا أَنْ أَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْتَجْلُوني بِهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يُلْجِدُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ يَكُونُ عَلَيْهِ نِصْفُ عَذَابِ الْعَالَمِ. فَلَنْ أَكُونَ أَكَايَاكَةً، وَأَمَّا أَنْ أَلْحَقَ بِالشَّامِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ الشَّامِ، وَفِيهِمْ مُعَاوِيَةُ، فَلَنْ أَفَارِقَ دَارَ هَجْرَتِي وَمَجَاوِرَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

مسند احمد: ج 1 ص 371 رقم الحديث 481 مسند عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: آپ عوام کے امام ہیں آپ مشکل حالات میں ہیں جیسا کہ آپ کو خود بھی اس کا اچھی طرح احساس ہے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ تین باتوں میں سے کسی بات کو اختیار فرمائیں۔

نمبر 1: آپ باہر نکلیں مقابلہ کریں، آپ کے ساتھ افرادی قوت موجود ہے۔ آپ

حق پر ہیں اور آپ کے مد مقابل باطل پر ہیں۔

نمبر 2: جس دروازے پر باغی و فسادی کھڑے ہیں ہم اس کے علاوہ دوسرا دروازہ کھول دیتے ہیں، آپ اس دروازے سے سواری پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں۔ وہاں کوئی شخص آپ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔

نمبر 3: آپ ملک شام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جائیں (وہاں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا)

آپ رضی اللہ عنہ نے ان باتوں کے جواب میں فرمایا کہ

1: آپ کی پہلی پیش کش کہ میں باہر نکل کر قتال کروں ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کا خلیفہ ہو کر آپ) کی امت میں سب سے پہلا خون بہانے والا نہیں بننا چاہتا۔

2: آپ کی دوسری پیش کش کہ میں مکہ مکرمہ چلا جاؤں ایسا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو قریشی حرم مکہ میں الحاد کرے (یعنی خون بہائے یا خون بہانے کا سبب بنے) تو اس پر آدھی دنیا کے باشندوں کا عذاب ہو گا۔ میں وہ نہیں بننا چاہتا۔

3: آپ کی تیسری پیش کش کہ میں شام چلا جاؤں وہاں شامی لوگ موجود ہیں وہاں معاویہ بن ابی سفیان موجود ہیں ایسا بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں دارالہجرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا۔

4: حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما

امام ابو عبد اللہ محمد بن سعد بن منیع الهاشمی البغدادی رحمہ اللہ (ت 230ھ) روایت نقل کرتے ہیں۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَيَّانَ يَوْمَ الدَّارِ: "فَاتِلْهُمَا،

فَوَاللّٰهِ لَقَدْ أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ قِتَالَهُمْ، فَقَالَ: لَا وَاللّٰهِ لَا أَقَاتِلُهُمْ أَبَدًا قَالَ: فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ عُمَانُ أَمَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَلَى الدَّارِ، وَقَالَ عُمَانُ: مَنْ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ طَاعَةٌ فَلْيُطِيعْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ."

الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ج 3 ص 52 ذکر ماقبل لعثمان فی الخلع

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کی: آپ دشمنوں سے لڑیں! بخدا اللہ نے آپ کے ان کے ساتھ لڑنے کو حلال کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ اللہ کی قسم! میں ان سے (مدینہ منورہ میں) کبھی بھی نہیں لڑوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ دشمن آپ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گھس آئے، آپ اس وقت روزے کی حالت میں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں موجود محافظین پر عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا اور فرمایا: جس پر میری اطاعت واجب ہے اسے چاہیے کہ وہ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بات مانے۔

5: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ

امام ابو عبد اللہ محمد بن سعد بن منیع الهاشمی البغدادی رحمہ اللہ (ت 230ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيِّدِينَ قَالَ: جَاءَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى عُمَانَ فَقَالَ: هَذِهِ الْأَنْصَارُ بِالْبَابِ يَقُولُونَ: إِنَّ شِئْتَ كُنَّا أَنْصَارًا لِلَّهِ مَرَّتَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ عُمَانُ: "أَمَّا الْقِتَالُ فَلَا".

الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ج 3 ص 51 ذکر ماقبل لعثمان فی الخلع

ترجمہ: امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ انصار

کی ایک جماعت آپ کے دروازے پر موجود ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اللہ (کے دین کی حفاظت) کے لیے نصرت کرنے کو تیار ہے یعنی آپ کے دشمنوں سے لڑنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے دو مرتبہ اس خواہش کا اظہار کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لڑنے کی اجازت نہیں دی۔

6: حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما

حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ (ت 774ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

فَقَالَ: لَا أَخْتَارُ بِحِوَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاكَ فَقَالَ: أَجْهَرُ لَكَ جَيْشًا مِنَ الشَّامِ يَكُونُونَ عِنْدَكَ يَنْصُرُونَكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ أَضِيقَ بِهِمْ بَلَدًا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. قَالَ مُعَاوِيَةُ: فَوَ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَنُغْتَالَكَ - أَوْ قَالَ: لَنُغْزِينَ - فَقَالَ عُثْمَانُ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. ثُمَّ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ مُتَقَلِّدُ السَّيْفِ وَقَوْسُهُ فِي يَدِهِ، فَمَرَّ عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَظَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ وَاتَّكَأَ عَلَى قَوْسِهِ وَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ بَلِيغٍ يَشْتَبِلُ عَلَى الْوَصَاةِ بِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالتَّحْدِيدِ مِنْ إِسْلَامِهِ إِلَى أَعْدَائِهِ ثُمَّ انْصَرَفَ ذَاهِبًا.

البدایۃ والنہایۃ لابن کثیر: ج 4 ص 182 ثم دخلت سنة اربع وثمانين

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کی حفاظت کے لیے ایک دستہ شام سے روانہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے اندیشہ ہے کہ اس طرح اس دستے کو سنبھالنے کا شہر رسول کے مہاجرین و

انصار پر بوجھ پڑے گا (جو مجھے پسند نہیں)۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی امیر المومنین! اللہ کی قسم، مجھے خدشہ ہے کہ آپ پر اچانک حملہ نہ ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے بہتر کارساز ہے۔ (جب ان حفاظتی تدابیر کے لیے رضامند نہ ہوئے تو) حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ (اپنے شام کے سفر کے لیے) تلوار اور کمان وغیرہ سے مسلح ہو کر نکلے اور مہاجرین و انصار کی مجلس کے قریب سے گزرے جہاں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ آپ نے اپنی کمان سے ٹیک لگا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت سے متعلقہ ایک بلیغ گفتگو فرمائی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تاکید فرمائی کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھیں۔ اس کے بعد آپ وہاں سے چل دیے۔

7: سیدہ نائلہ بنت الفرافصہ رضی اللہ عنہا

حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ (ت 774ھ) فرماتے ہیں:

وَقَامَتْ نَائِلَةُ دُونَهُ فَقَطَعَ السَّيْفُ أَصَابِعَهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

الہدایۃ والنہایۃ لابن کثیر: ج 4 ص 198 صفحہ قبلہ رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سیدہ نائلہ رضی اللہ عنہا آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں لیکن (مارنے والے کی) تلوار نے آپ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔

7: حسنین کریمین اور اولاد صحابہ رضی اللہ عنہم

امام عبد الرحمن بن ابی بکر جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ (ت 911ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

قَالَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: اذْهَبَا بِسَيْفَيْكُمَا حَتَّى تَقُومَا عَلَى بَابِ عُثْمَانَ فَلَا تَدْعَا أَحَدًا يَصِلُ إِلَيْهِ وَبَعَثَ الزُّبَيْرُ ابْنَهُ وَبَعَثَ طَلْحَةُ ابْنَهُ وَبَعَثَ عِدَّةٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْنَاءَهُمْ يَمْنَعُونَ النَّاسَ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَى عُثْمَانَ.

تاریخ الخلفاء للسیوطی: ص 127 تحت خلافتہ و ما حدث فی عہدہ من الاحداث ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو فرمایا: تلواریں لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر (پہرے دار بن کر) کھڑے ہو جاؤ اور کڑی نگرانی کرو کہ کوئی دشمن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک نہ پہنچنے پائے۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے بھیجا کہ دشمن ان تک نہ پہنچ سکے۔

عہدِ رسول ﷺ کی پاسداری:

امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ الترمذی رحمہ اللہ (ت 279ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عُمَانُ! إِنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يُقَبِّضُكَ قَبِيضًا فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ.

جامع الترمذی: رقم الحدیث 3705

ترجمہ: ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا: عثمان! یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص (خلعت خلافت) پہنائیں گے۔ اگر لوگ اس کو اتارنا (یعنی خلافت چھیننا) چاہیں تو ان کی خاطر اسے مت اتارنا (یعنی خلافت سے دستبردار مت ہونا)

امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ الترمذی رحمہ اللہ (ت 279ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ أَبِي سَهْلَةَ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ يَوْمَ الدَّارِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَاهَدَ إِلَيَّ عَهْدًا فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ.

جامع الترمذی: رقم الحدیث 3711

ترجمہ: حضرت ابو سہلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے محاصرے کے دوران فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد فرمایا تھا تو میں اسی کی پاسداری میں صبر کر رہا ہوں۔

اعترض:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بلوایوں کے مطالبہ پر خلافت چھوڑ دیتے یا ان کا مقابلہ کرتے تاکہ شہادت کا سانحہ پیش نہ آتا۔ بلوایوں کا مطالبہ تھا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت بھی نہیں چھوڑی اور بلوایوں سے مقابلہ بھی نہیں کیا۔ تو یہ دو کام تھے کہ...

- 1: خلافت چھوڑ دیتے تو بہتر ہوتا؛ کہ اس سے انتشار ختم ہو جاتا
 - 2: یا مقابلہ کرتے تو بلوایوں کو پسپائی ہوتی اور آپ کی جان بچ جاتی۔
- آپ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کاموں میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا۔

جواب:

[1]: منصبِ خلافت نہ چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عہد لیا تھا کہ ایسے کڑے حالات آئیں گے جن میں لوگ آپ سے منصبِ خلافت چھیننا چاہیں گے لیکن آپ اس وقت خلافت سے دستبردار نہ ہوں۔ اسی عہد کی پاسداری میں آپ رضی اللہ عنہ نے جان دی لیکن

خلافت نہ چھوڑی۔

چنانچہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ الترمذی رحمہ اللہ (ت 279ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عُمَانُ! إِنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يُقَبِّضُكَ قَبِيضًا فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ.

جامع الترمذی: رقم الحدیث 3705

ترجمہ: ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا: عثمان! یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص (خلعت خلافت) پہنائیں گے۔ اگر لوگ اس کو اتارنا (خلافت چھیننا) چاہیں تو ان کی خاطر اسے مت اتارنا (یعنی خلافت سے دستبردار مت ہونا)

امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ الترمذی رحمہ اللہ (ت 279ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ أَبِي سَهْلَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَانُ يَوْمَ الدَّارِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَاهَدَ إِلَيَّ عَهْدًا فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ.

جامع الترمذی: رقم الحدیث 3711

ترجمہ: حضرت ابوسہلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے محاصرے کے دوران فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد فرمایا تھا تو میں اسی کی پاسداری میں صبر کر رہا ہوں۔

[2]: بلوایوں سے مقابلہ نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ

منورہ میں خون خرابہ ہو۔ کیونکہ مقابلہ ہوتا تو لازمی بات ہے کہ مدینہ منورہ میں لاشیں گرتیں اور یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے۔

چنانچہ حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر الدمشقی

رحمہ اللہ (ت 774ھ) فرماتے ہیں:

وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمُصْحَفَ يَتْلُو فِيهِ، وَاسْتَسْلَمَ لِقَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَكَفَّ يَدَهُ عَنِ الْقِتَالِ، وَأَمَرَ النَّاسَ وَعَزَمَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يُقَاتِلُوا دُونَهُ.

البدایۃ والنہایۃ لابن کثیر: ج 4 ص 196 فصل کان الحصار مسترا من اواخر ذی القعدة

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے سامنے مصحف (قرآن کریم کا نسخہ) رکھا ہوا تھا جس میں دیکھ کر تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ عزوجل کی قضاء کو تسلیم کیا اور خود کو قتال سے روکے رکھا۔ لوگوں کو بھی یہی حکم دیا اور اپنا فیصلہ ان پر نافذ فرمایا کہ وہ آپ کی حفاظت کے لیے بھی خونریزی نہ کریں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت

شہادت کی پیش گوئی:

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ (ت 360ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ...أَنَا جَالِسٌ إِذْ جُعِلَتْ فِي يَدَائِي تَفَاحَةٌ فَأَنْفَلَقَتِ التُّفَاحَةُ بِبَصْفَتَيْنِ فَخَرَجَتْ مِنْهَا جَارِيَةٌ لَهَا أَرْجَارِيَّةٌ أَحْسَنَ مِنْهَا حُسْنًا وَلَا أَجْمَلَ مِنْهَا جَمَالًا تُسَبِّحُ تَسْبِيحًا لَمْ يَسْمَعْ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ بِمِثْلِهِ. فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتِ يَا جَارِيَةُ؟ قَالَتْ: أَنَا مِنَ الْحَوَرِ الْعَيْنِ خَلَقَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نُورٍ عَزَّ شَبَّهِ. فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتِ؟ قَالَتْ: لِلْخَلِيفَةِ الْمَظْلُومِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

المعجم الكبير للطبرانی: ج 1 ص 167 رقم الحديث 597

ترجمہ: حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ سے مروی (ایک طویل حدیث میں) ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں ایک سیب رکھا گیا۔ وہ سیب دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو اس سے ایک لڑکی ظاہر ہوئی۔ میں نے اس سے زیادہ حسن و جمال والی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اللہ کی ایسی تسبیح بیان کر رہی تھی کہ اولین و آخرین نے اس جیسی تسبیح نہیں سنی ہوگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں حور عین ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے عرش کے (مادہ) نور سے پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ (آپ کے بعد آنے والے) اس خلیفہ کے لیے جس کو ظلماً شہید کیا جائے گا یعنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے۔

فائدہ:

یہاں اس بات پر تنبیہ ضروری ہے کہ اس روایت پر محدثین نے سخت کلام کیا ہے حتیٰ کہ بعض حضرات نے اس روایت کو ”موضوع“ بھی لکھا ہے۔

شہادت سے قبل ایک خواب:

امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد الحاکم رحمہ اللہ (ت 405ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُثْمَانَ أَصْبَحَ فَحَدَّثَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: "يَا عُثْمَانُ! أَفْطَرِ عِنْدَنَا."

المستدرک علی الصحیحین: ج 4 ص 62 رقم الحدیث 4610 روایا عثمان ان النبی ﷺ یقول له ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے (اپنی شہادت والی) صبح یہ بات بیان فرمائی کہ میں نے گزشتہ رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: عثمان! ہمارے پاس روزہ افطار کرو۔

حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ (ت 774ھ) فرماتے ہیں:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ. قَالَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ لِأَسْلَمَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَخْضُورٌ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرَحَبًا يَا حَبِيبِي، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فِي هَذِهِ الْحَوْخَةِ. قَالَ: وَخَوْخَةٌ فِي الْبَيْتِ. فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ حَصْرُوكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ! قَالَ: عَطَشُوكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ! فَأَذَلُّ دَلُّوا فِيهِ مَاءً فَشَرِبْتُ حَتَّى رَوَيْتُ حَتَّى إِنِّي لَأَجِدُ بَرْدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْ وَبَيْنَ كَتِفَيْ، وَقَالَ لِي: إِنْ شِدْتُ نَصَرْتَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ شِدْتُ أَفْطَرْتَ عِنْدَنَا، فَأَحْتَرْتُ أَنْ أَفْطِرَ عِنْدَهُ.

فَقَتِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

البدایۃ والنہایۃ لابن کثیر: ج 4 ص 195 فصل کان الحصار مستمر امن اواخر ذی القعدۃ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محاصرہ کے دوران ایک دن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تاکہ آپ سے سلام دعا کر سکوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خوش آمدید! رات میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے چھوٹے دروازے کے پاس دیکھا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک چھوٹا دروازہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا: عثمان! کیا آپ کو محصور (نظر بند) کر دیا گیا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: کیا آپ کو ان لوگوں نے پیسا رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول لٹکایا جس میں پانی تھا، میں نے وہ پانی پیایہاں تک کہ میں سیر ہو گیا۔ اس کی ٹھنڈک اب بھی اپنے سینے میں پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو دشمنوں پر آپ کو فتح نصیب ہو اور اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ افطار کر لیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار کرنا پسند کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔

عبادت بوقتِ شہادت

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شہادت والادن بھی عبادات میں گزرا۔

1: تلاوتِ قرآن

امام ابو عبد اللہ محمد بن سعد بن منیع الہاشمی البغدادی رحمہ اللہ (ت 230ھ) روایت نقل کرتے ہیں۔

لَمَّا ضَرَبَهُ بِالسَّاقِصِ قَالَ عُثْمَانُ: بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَإِذَا الدَّمُ يَسِيلُ عَلَى اللَّحْيَةِ يَقْطُرُ، وَالْبُصْحَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَتَاكَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ وَهُوَ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَقْرَأُ الْبُصْحَفَ وَالِدَّمُ يَسِيلُ عَلَى الْبُصْحَفِ حَتَّى وَقَفَ الدَّمُ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ج 3 ص 54 ذکر قتل عثمان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر نیزوں سے وار کیے گئے تو آپ نے فرمایا: اللہ کے نام کے ساتھ (اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں)، اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ خون آپ کی ڈاڑھی مبارک پر بہہ رہا تھا اور مصحف (قرآن کریم کا نسخہ) آپ کے سامنے موجود تھا۔ آپ نے بائیں جانب ٹیک لگاتے ہوئے سبحان اللہ العظیم پڑھا۔ اس وقت آپ پہلے سے قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھے اور خون کے قطرات قرآن کریم پر ٹپک رہے تھے حتیٰ کہ خون کے قطرات قرآن کریم کے الفاظ ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ پر ثبت ہو گئے۔

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ (ت 360ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ أَدَاةُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ أَطَافُوا بِهِ يُرِيدُونَ قَتْلَهُ: "إِنْ تَقْتُلُوهُ أَوْ تَتْرَكُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ يَجْمَعُ فِيهَا الْقُرْآنَ."

المعجم الكبير للطبرانی: ج 1 ص 50 رقم الحديث 128

ترجمہ: امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جس وقت باغی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر کے چکر کاٹ رہے تھے تو اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سیدہ نائلہ رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا: اگر تم لوگ انہیں قتل کرو یا نہ کرو لیکن تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ رات بھر عبادت کرتے ہیں جس میں ایک ہی رکعت میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔

حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ

(ت 774ھ) فرماتے ہیں:

أَتَاكَ رَجُلٌ بِبَيْدِهِ جَرِيدَةً يُقَدِّمُهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَى عُثْمَانَ فَصَرَبَ بِهَا رَأْسَهُ فَشَجَّهَ، فَقَطَّرَ دَمَهُ عَلَى الْمُصْحَفِ.

البدایہ والنہایہ لابن کثیر: ج 4 ص 197 صفحہ قتلہ رضی اللہ عنہ

ترجمہ: ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ آگے بڑھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سر پر وار کیا جس سے آپ بہت زیادہ زخمی ہوئے۔ آپ کے خون کے قطرات مصحف (قرآن کریم کے نسخہ) پر جا گرے۔

حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ

(ت 774ھ) فرماتے ہیں:

دَعَا مُصْحَفٍ فَنَشَرَ يَدَيْهِ فَقَتِلَ وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

البدایہ والنہایہ لابن کثیر: ج 4 ص 196 فصل کان الحصار مستمرا من اواخر ذی القعدة

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کا نسخہ منگوایا اور اسے کھول کر

سامنے رکھا۔ آپ کی شہادت کے وقت قرآن کریم آپ کے سامنے موجود تھا۔

2: روزہ

امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد الحاکم رحمہ اللہ (ت 405ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصْبَحَ عُثْمَانُ صَائِمًا فَقُتِلَ مِنْ يَوْمِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

المستدرک علی الصحیحین: ج 4 ص 62 رقم الحدیث 4610 روایا عثمان ان النبی ﷺ یقول لہ ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے روزہ کی حالت میں صبح کی اور اس دن روزے کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔

3: غلاموں کی آزادی

حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ (ت 774ھ) فرماتے ہیں:

عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ عُثْمَانَ أَعْتَقَ عَشِيرِينَ تَمَلُّوْكَا.

البدایہ والنہایۃ لابن کثیر: ج 4 ص 196 فصل کان الحصار مستمرا من اواخر ذی القعدة ترجمہ: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ ابوسعید مسلم رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ (دوران محاصرہ) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیس غلام آزاد فرمائے۔

4: قیام امن کا حکم

حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ (ت 774ھ) فرماتے ہیں:

وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمُصْحَفَ يَتْلُو فِيهِ. وَاسْتَسْلَمَ لِقَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَكَفَّ يَدَهُ عَنِ الْقِتَالِ. وَأَمَرَ النَّاسَ وَعَزَمَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يُقَاتِلُوا دُونَهُ.

البدایہ والنہایہ لابن کثیر: ج4 ص196 فصل کان الحصار مستمرا من اواخر ذی القعدة

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے سامنے مصحف (قرآن کریم کا نسخہ) رکھا ہوا تھا جس میں دیکھ کر تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ عزوجل کی قضاء کو تسلیم کیا اور خود کو قتال سے روکے رکھا۔ لوگوں کو بھی یہی حکم دیا اور اپنا فیصلہ ان پر نافذ فرمایا کہ وہ آپ کی حفاظت کے لیے بھی خونریزی نہ کریں۔

5: دعا

امام ابو العرب محمد بن احمد بن تمیم التیمی الافریقی رحمہ اللہ (ت333ھ)
روایت نقل کرتے ہیں:

عَنِ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ لِلَّذِينَ حَضَرُوا عُثْمَانَ
حِينَ قُتِلَ مَا كَانَ قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَشَجِّطٌ فِي دَمِهِ؟ قَالُوا كَانَ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ اُمَّةً
مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ اُمَّةً مُحَمَّدٍ.

کتاب المحن: ص87 ذکر مقتل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وماروی فی ذالک

ترجمہ: حضرت لیث بن سعد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت وہاں موجود تھے کہ جب آپ خون میں لت پت تھے تو آپ نے کیا دعا مانگی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آخر وقت میں یہ دعا مانگی:

”اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ اُمَّةً مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ اُمَّةً مُحَمَّدٍ!“

اے اللہ! امت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اتفاق نصیب فرما! اے اللہ امت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اتفاق نصیب فرما!

شہادت اور شہادت کے بعد

امام ابو زید عمر بن شبہ بن عبیدہ بن ربیعہ النمیری البصری رحمہ اللہ (ت 262ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

قَالَتْ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ قُتِلَ. فَدَخَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُمَا فَوَجَدُوا عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَذْبُوحًا فَأَنْكَبُوا عَلَيْهِ يَبْكُونَ وَخَرَجُوا وَدَخَلَ النَّاسُ فَوَجَدُوهُ مَقْتُولًا، وَبَلَغَ عَلِيًّا الْخَبَرُ وَطَلَحَهُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدًا وَمَنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ، فَخَرَجُوا وَقَدْ ذَهَبَتْ عُقُولُهُمْ لِلْخَبَرِ الَّذِي أَتَاهُمْ حَتَّى دَخَلُوا عَلَيْهِ فَوَجَدُوهُ مَذْبُوحًا فَاسْتَرْجَعُوا.

تاریخ المدینۃ لابن شبہ: ج 4 ص 1305 تحت رجوع اہل مصر بعد شہدائے

ترجمہ: (جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت آپ کی اہلیہ) سیدہ نائلہ رضی اللہ عنہا نے لوگوں کو بتایا کہ امیر المؤمنین (حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ) کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت حسن، حسین رضی اللہ عنہما اور جو لوگ ان دونوں کے ساتھ تھے وہ گھر میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذبح کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جھک گئے اور رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد باہر تشریف لائے۔ ان کے بعد باقی لوگ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید پایا۔ یہ خبر حضرت علی المرتضیٰ، طلحہ، زبیر، سعد رضی اللہ عنہم اور جو لوگ مدینہ میں موجود تھے ان تک پہنچی۔ یہ سب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ اس خبر نے سب کے اوسان خطا کر دیے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے، آپ کو شہید پایا اور اناللہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔

حسین کریمین رضی اللہ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈانٹ:

امام ابو زید عمر بن شبہ بن عبیدہ بن ریطہ النمیری البصری رحمہ اللہ
(ت 262ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

وَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَبْنَيْهِ: كَيْفَ قُتِلَ وَأَنْتُمَا عَلَى الْبَابِ؟
وَلَطَمَ الْحَسَنَ وَضَرَبَ الْحُسَيْنَ.

تاریخ المدینۃ لابن شبہ: ج 4 ص 1305 تحت رجوع اہل مصر بعد شتو صہم
ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو جھنجھوڑ کر فرمایا کہ
تمہارے ہوتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیسے شہید کر دیا گیا؟ (دشمن اپنے
مقصد میں کیسے کامیاب ہو گیا؟) اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو طمانچہ مارا، حضرت
حسین رضی اللہ عنہ کو بھی مارا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وصیت نامہ:

حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ
(ت 774ھ) فرماتے ہیں:

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ فَتَشُّوا خَزَانَتَهُ
فَوَجَدُوا فِيهَا صَنْدُوقًا مَقْفُولًا فَفَتَحُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ حَقَقَةً فِيهَا وَرَقَةٌ مَكْتُوبٌ
فِيهَا: «هَذِهِ وَصِيَّةُ عُثْمَانَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ يُشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ
النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ
الْمِيعَادَ، عَلَيْهَا يَحْيَى وَعَلَيْهَا يَمُوتُ، وَعَلَيْهَا يُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى».

البدایۃ والنہایۃ لابن کثیر: ج 4 ص 196 فصل کان الحصار مستمرا من اواخر ذی القعدة
ترجمہ: حضرت علاء بن فضل رحمہ اللہ اپنے والد فضل سے روایت کرتے ہیں کہ

جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تو (ان کے وہاں سے فرار ہونے کے بعد) لوگوں نے آپ کے سامان کو تلاش کیا تو انہیں ایک صندوق ملا جسے تالا لگا ہوا تھا۔ اسے کھولا گیا۔ وہاں پر ایک چھوٹے سے برتن میں بند ایک ورق تھا جس پر حضرت عثمان کی وصیت درج تھی:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم، عثمان بن عفان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور عثمان بن عفان اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جنت اور دوزخ برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلائی نہیں کرتے۔ عثمان نے اسی عقیدے پر زندگی گزاری ہے اور اسی عقیدے پر وفات پائے گا، اور قیامت کے دن اسی عقیدے پر عثمان کو اٹھایا جائے گا۔

نماز جنازہ:

آپ رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی اطلاع جب مدینہ طیبہ میں پھیلی تو جو جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ باغی اس حد تک جاسکتے ہیں، ہر آنکھ اشکبار تھی۔

امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل البغدادی رحمہ اللہ (ت 241ھ) روایت نقل فرماتے ہیں:

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: صَلَّى الزُّبَيْرُ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَدَفَنَهُ وَكَانَ أَوْطَى إِلَيْهِ.

مسند احمد: ج 1 ص 399 رقم الحدیث 549 ومن اخبار عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نماز

جنازہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو (نماز جنازہ پڑھانے کی) وصیت فرمائی تھی۔

بوقتِ شہادت فرشتوں کی دعائے مغفرت:

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ (ت 360ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ سَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَبَّأ طِعْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَمَرَ بِالشُّورَى، دَخَلْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةُ ابْنَتُهُ، فَقَالَتْ: يَا أَبَتِ، إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ الَّذِينَ جَعَلْتَهُمْ فِي الشُّورَى لَيْسَ هُمْ بِرَضَى؛ فَقَالَ: أَشْنِدُونِي، فَأَشْنَدُوهُ، وَهُوَ لَهَا بِهِ، فَقَالَ: مَا عَسَى أَنْ يَقُولُوا فِي عُثْمَانَ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَوْمَ يَمُوتُ عُثْمَانُ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ» قُلْتُ: لِعُثْمَانَ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: «بَلْ لِعُثْمَانَ خَاصَّةً».

المعجم الاوسط للطبرانی: ج 2 ص 249 رقم الحدیث 3172

ترجمہ: حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر رحمہ اللہ اپنے والد (حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے اور انہوں نے (امر خلافت کے بارے میں) شوریٰ کو حکم دیا۔ اسی دوران آپ کی صاحبزادی (ام المومنین زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم) سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں تشریف لائیں اور عرض کی: ابوجان! بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے شوریٰ کے لیے منتخب فرمایا ہے وہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (شدت تکلیف کی وجہ سے) فرمایا کہ مجھے سہارا دیں۔ وہاں پر موجود لوگوں نے آپ کو سہارا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس وقت سخت تکلیف کی حالت میں تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: شاید لوگ ایسی باتیں حضرت عثمان رضی

اللہ عنہ کے بارے میں کر رہے ہوں حالانکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس دن عثمان کی شہادت ہوگی اس دن آسمان کے فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کریں گے۔ (حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ) میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: کیا یہ صرف عثمان کے لیے ہے یا سب لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے خاص ہے۔

تکفین و تدفین:

امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل البغدادی رحمہ اللہ (ت 241ھ) روایت نقل فرماتے ہیں:

دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ وَلَمْ يُغَسَّلْ.

مسند احمد: ج 1 ص 393 رقم الحدیث 531 مسند عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غسل دیے بغیر شہادت والے خون آلود کپڑوں میں دفن کر دیا گیا۔

شہادت کا دن، مہینہ اور سال:

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ (ت 360ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قُتِلَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، تَمَامَ سَنَةِ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ.

المعجم الكبير للطبرانی: ج 1 ص 44 رقم الحدیث 105

ترجمہ: حضرت یحییٰ بن بُکیر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری بروز جمعۃ المبارک شہید کر دیا گیا۔

کل عمر:

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ
(ت 360ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ:..... وَسَنَّهُ ثَمَانٍ وَثَمَانُونَ سَنَةً.

المعجم الكبير للطبرانی: ج 1 ص 44 رقم الحديث 105

ترجمہ: حضرت یحییٰ بن بکیر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
کی کل عمر 88 سال تھی۔

کل زمانہ خلافت:

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ
(ت 360ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ:..... وَكَانَتْ وَلَايَةُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اثْنَتَيْ
عَشَرَ سَنَةً.

المعجم الكبير للطبرانی: ج 1 ص 44 رقم الحديث 105

ترجمہ: حضرت یحییٰ بن بکیر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
کا کل عرصہ خلافت 12 سال ہے۔

﴿ حصہ دوم ﴾

اعتراضات وجوابات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اعتراض نمبر 1: غزوہ بدر میں شریک نہ ہونا

سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے اہم ترین اور پہلے غزوہ؛ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔

جواب نمبر 1:

جنگ میں شرکت کی دو صورتیں ہیں:

1: آدمی میدان جہاد میں موجود ہو یعنی قتال میں شریک ہو۔

2: آدمی امیر لشکر کی تشکیل پر ہو۔

ان دونوں صورتوں کی مثال عہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں مل جاتی

ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی غزوہ بدر میں شرکت کی دوسری صورت تھی۔

آپ رضی اللہ عنہ نے خود کو پیش کر دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی تشکیل فرمائی تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رکے رہیں اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری کریں۔

1: امام ابو عبد اللہ محمد ابن سعد ابن منیع البصری رحمہ اللہ (ت 430ھ) لکھتے

ہیں:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَكْنَفٍ بْنِ حَارِثَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: "لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرٍ خَلَّفَ عُثْمَانُ عَلَى ابْنَتِهِ رُقَيْيَةَ، وَكَانَتْ مَرِيضَةً فَمَاتَتْ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهَا يَوْمَ قَدِيمٍ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ بِشَيْءٍ يَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرًا، وَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُثْمَانَ بِسَهْمِهِ وَأَجْرُهُ فِي بَدْرٍ، فَكَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا.

الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ج 3 ص 41 باب ذکر اسلام عثمان بن عفان

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مکلف بن حارثہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کی تیار داری کیلئے چھوڑا جو اس وقت بیمار تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال اسی دن ہوا جس دن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں اس فتح کی خوشخبری لائے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر والے دن عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر کا حصہ بھی دیا اور اجر میں بھی شریک ٹھہرایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حیثیت ان صحابہ کی طرح تھی جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔

2: امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) نے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں ہے کہ ایک مصری شخص نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کچھ اعتراضات کیے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان اعتراضات کے جوابات دیے۔ ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہی تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا:

وَأَمَّا تَغْيِبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَ بَنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ".

صحیح البخاری: رقم الحدیث 4066

ترجمہ: بدر کی لڑائی میں ان کے موجود نہ ہونے کے متعلق جو تم نے کہا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی (حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا) تھیں جو کہ بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو بدر کی لڑائی میں شریک ہو گا اور اسی کے برابر مال غنیمت سے حصہ بھی ملے گا۔

استدلال:

غزوہ بدر کی فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت میں سے فاتحین بدر کے مساوی مال غنیمت دیا تھا جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شمار شرکائے بدر میں کیا گیا تھا۔

اعتراض نمبر 2: غزوہ احد میں میدان چھوڑ کر چلے جانا

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجَالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ - وَكَانُوا أَمْحُسِينَ رَجُلًا - عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: "إِنْ رَأَيْتُمُونَا نَحْطِفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسَلَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسَلَ إِلَيْكُمْ". فَهَزَمُوهُمْ قَالَ: فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ وَأَسُوفُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ: الْغَنِيْمَةُ أَيْ قَوْمُ الْغَنِيْمَةِ ظَهَرُوا أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ: أَنْسَيْتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا: وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيْمَةِ. فَلَمَّا أَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مُنْهَرِمِينَ فَذَلِكَ إِذْ يَدْعُوهُمْ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ الْحَدِيث.

صحیح البخاری: رقم الحدیث 3039

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والے دن حضرت عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو تیز اندازوں کا امیر مقرر کیا جن کی تعداد پچاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ اگر یہ منظر بھی دیکھو کہ ہمیں پرندے نوچ رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں تمہاری طرف کوئی پیغام نہ بھیج دوں، اور اگر تم یہ منظر بھی دیکھ لو کہ ہم نے مخالف فوج کو واضح شکست دے دی ہے اور ان کی لاشوں کو روند ڈالا ہے تب بھی اس

وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹنا جب تک میں تمہاری طرف کوئی پیغام نہ بھیج دوں۔ چنانچہ مسلمانوں نے کفار کو شکست دے دی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم! میں نے (مشرکین کی) عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے تیزی سے (میدان چھوڑ کر) بھاگ رہی تھیں اور ان کے پازیب اور پنڈلیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ حضرت عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا کہ غنیمت جمع کرو، اے قوم! غنیمت جمع کرو۔ تمہارے ساتھی غالب آچکے ہیں تو اب کس کس بات کا انتظار ہے؟ اس پر حضرت عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو ہدایت فرمائی تھی کیا تم اسے بھول گئے ہو؟ لیکن ان ساتھیوں نے کہا: قسم بخدا! ہم ضرور جائیں گے اور مال غنیمت جمع کریں گے۔ چنانچہ جب یہ لوگ (اپنی جگہ چھوڑ کر) ان کے پاس آئے تو ان کے چہرے پھیر دیے گئے اور وہ شکست سے دوچار ہو کر (میدان سے) لوٹے ہوئے نظر آئے۔ یہی وہ موقع ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے پکار رہے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باقی رہ گئے۔

امام فخر الدین ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن الحسین الرازی الشافعی رحمہ اللہ (ت 606ھ) لکھتے ہیں:

وَمِنْهُمْ أَيْضًا عُمَانُ انْهَزَمَ مَعَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمَا سَعْدٌ وَعُقْبَةُ، انْهَزَمُوا حَتَّى بَلَغُوا مَوْضِعًا بَعِيدًا.

التفسير الكبير: ج 9 ص 42 تحت قوله ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ﴾ آل عمران: 155

ترجمہ: میدان چھوڑنے والوں میں حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) بھی تھے جو دو انصاری صحابہ سعد اور عقبہ (رضی اللہ عنہما) کے ساتھ چلے گئے تھے اور بہت دور ایک مقام پر جا پہنچے تھے۔

فائدہ:

اُحد پہاڑ کی ایک طرف درّہ ہے جو جبلِ رماۃ کے نام سے معروف ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ پچاس تیر اندازوں کو مقرر فرمایا اور تاکید کی کہ جب تک میرا حکم نہ ہو آپ لوگوں نے یہاں سے ہٹنا نہیں، چاہے فتح ہو یا شکست۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انتہائی جاثاری اور جوانمردی کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے اور مشرکین بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ مسلمان ان کو بھگا رہے تھے اور کچھ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ درّہ پر مقرر تیر انداز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اکثر نیچے اتر کر اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ مل کر غنیمت اکٹھی کرنے لگے۔ دوسری طرف خالد بن ولید نے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، درہ خالی دیکھا تو اچانک حملہ کر دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ چنانچہ اس حملہ کے بعد بعض صحابہ رضی اللہ عنہم میدان چھوڑ کر چلے گئے اور بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔

اعتراض:

غزوہٴ احد میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان جانے والے حضرات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے حالانکہ وہ موقع میدان چھوڑ کر جانے کا نہیں بلکہ میدان میں ٹھہر کر دشمن سے مقابلہ کرنے کا تھا۔

جواب:

اہل السنۃ والجماعۃ کا موقف یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محفوظ ہیں۔

محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی سے بشری تقاضوں کے مطابق کبھی کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذمے میں وہ باقی نہیں رہنے دیتے یعنی دنیا میں اس خطا کی معافی عطا فرمادیتے ہیں اور اس خطا کی وجہ سے ملنے والے اُخروی عذاب سے ان کو محفوظ فرمالیتے ہیں۔

غزوہ احد میں مشرکین کی طرف سے جو اچانک حملہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں مسلمان ایک اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اسی اضطراب و پریشانی نے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مجبور کیا اور ان سے میدان سے لوٹنے کی خطا سرزد ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس خطا کو معاف فرمادیا ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنا غلط ہے۔

1: فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾

سورۃ آل عمران: رقم الآیہ: 155

ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی بھی معافی دے دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی اور بردبار ہے۔

2: امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) نے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں ہے کہ ایک مصری شخص نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کچھ اعتراضات کیے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان اعتراضات کے جوابات دیے۔ ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہی تھا جس کے جواب میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا:

أَفَمَا إِذْ دُيُّوْهُ أَحَدٌ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ.

صحیح البخاری: رقم الحدیث 4066

ترجمہ: احد کی لڑائی میں میدان سے لوٹنے سے متعلق جو تم نے کہا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف کر دی ہے۔

3: علامہ سید ابو الثناء محمود آلوسی آفندی بغدادی الحنفی رحمہ اللہ (ت 1270ھ) لکھتے ہیں:

لَا تَعْيِيرَ بَعْدَ عَفْوِ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الْجَمِيعِ وَنَحْنُ لَا نَدَّعِي الْعِصْمَةَ فِي الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَلَا نَشْتَرِطُهَا فِي الْخِلَافَةِ.

روح المعانی: ج 3 ص 99 تحت قولہ ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ﴾ آل عمران: 155

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو معاف فرمادینے کے بعد تو اعتراض کی کوئی وجہ بنتی ہی نہیں۔ نیز ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے معصوم ہونے کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی عصمت کو خلافت کے لیے شرط قرار دیتے ہیں۔ (اس لیے جب خطا معاف ہو گئی تو اعتراض ہی ختم ہو گیا۔)

اعتراض نمبر 3: بیعت رضوان میں شریک نہ ہونا

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے بیعت رضوان میں شرکت نہیں کی تھی۔

جواب:

بیعت رضوان میں درج ذیل چند امور تھے۔

- 1: یہ بیعت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہی کی وجہ سے لی گئی تھی۔
- 2: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔
- 3: بیعت لیتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اسے اپنے (بائیں) ہاتھ پر مار کر فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔

تو یہ بیعت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کی وجہ سے لی گئی تھی جو اس وقت مکہ میں روک لیے گئے تھے اور ان کی طرف سے بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے فرمائی تھی۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عدم شرکت کو بنیاد بنا کر ان پر اعتراض کرنا غلط ہے۔

اس حوالے سے چند تصریحات ملاحظہ ہوں:

- 1: امام ابو محمد جمال الدین عبد الملک بن ہشام بن ایوب الحمیری المعافری رحمہ اللہ (ت 213ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَبَعَثَهُ إِلَى أَبِي

سُفْيَانُ وَأَشْرَافُ قُرَيْشٍ، يُخْبِرُهُمْ أَنَّه لَمْ يَأْتِ الْحَرَبَ وَإِنَّهُ إِنَّمَا جَاءَ زَائِرًا إِلَيْهَا
الْبَيْتِ، وَمُعَظَّمًا لِحُرْمَتِهِ.

السيرة النبوية لابن هشام: ج 2 ص 315 عثمان رسول محمد الی قریش

ترجمہ: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ کو سرداران قریش بالخصوص ابوسفیان کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ لڑنے کی نیت سے نہیں آئے بلکہ بیت اللہ کی زیارت (بصورتِ عمرہ) کرنے آئے ہیں اور اس کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی تعظیم کریں گے۔

2: امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ الترمذی رحمہ اللہ (ت 279ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَبَّيْنا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: فَبَايَعَ النَّاسَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ". فَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِنْ أَيْدِيهِمْ لِأَنَّهُمْ لَا أَنْفُسَهُمْ.

جامع الترمذی: رقم الحديث 3702

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب (اللہ رب العزت کی طرف سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت رضوان کا حکم دیا گیا۔ تو اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد اور سفیر بن کر مکہ والوں کے پاس گئے ہوئے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی اور فرمایا: عثمان؛ اللہ اور اس کے رسول کے

کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مبارک ہاتھ کو (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر) دوسرے مبارک ہاتھ پر رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ لوگوں کے لیے ان کے اپنے ہاتھوں سے بہتر تھا۔

3: حج پر آنے والے ایک آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کیے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو جوابات دیے تھے۔ ان اعتراضات میں یہی اعتراض بھی تھا جس کے جواب میں آپ رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا تھا:

وَأَمَّا تَغْيِيبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرُّضْوَانِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَفَّانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ.

صحیح البخاری: رقم الحدیث 4066

ترجمہ: بیعت رضوان میں ان کی شرکت نہ کرنے کا جو سوال ہے تو وادی مکہ میں (اہل مکہ کی نظر میں) حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے زیادہ معزز کوئی اور شخص ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بجائے اسی کو بھیجتے۔

اعتراض نمبر 4: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو مارنا

(شیعہ مؤرخ) احمد بن ابویعقوب بن جعفر الیعقوبی (ت 284ھ) لکھتے ہیں:

فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعُثْمَانُ يَخْطُبُ فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ قَدْ قَدِمَتْ عَلَيْكُمْ دَابَّةٌ سَوَاءٌ. فَكَلَّمَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِكَلَامٍ غَلِيظٍ فَأَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ فَجَزَّ بِرِجْلِهِ حَتَّى كُسِرَ لَهُ ضِلْعَانِ.

تاریخ یعقوبی: ج 2 ص 170 تحت ایام عثمان بن عفان

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) مسجد میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ کے دوران ہی انہوں نے کہا: ”(اے لوگو!) تمہارے پاس بری سواری آئی ہے۔“ اس پر حضرت عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) نے ان سے سخت لہجے میں گفتگو کی۔ حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) نے (اپنے خدام کو) حکم دیا (کہ وہ انہیں ماریں) تو ان کی ٹانگ کو پکڑ کر کھینچا گیا جس سے حضرت عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) گر پڑے اور ان کی دو پسلیاں ٹوٹ گئیں۔

اعتراض:

اس عبارت کی بنیاد پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو زد کوب کروایا یہاں تک ان کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں۔

جواب نمبر 1:

یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ احمد بن ابویعقوب بن جعفر الیعقوبی (ت 284ھ) نے اپنی کتاب ”تاریخ یعقوبی“ میں اس روایت کو بغیر سند اور

بغیر حوالے کے پیش کیا ہے، تو بلا سند و بلا حوالہ روایت کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟

اس روایت کے ثابت نہ ہونے پر مورخین کی آراء ملاحظہ ہوں:

1: امام ابو بکر محمد بن عبد اللہ بن محمد المعافری ابن العربی المالکی رحمہ اللہ (ت 543ھ) لکھتے ہیں:

وَأَمَّا ضَرْبُهِ لَا بِنِ مَسْعُودٍ وَمَنْعُهُ عَطَاءٌ لَا قَرْوَرٌ.

العواصم من القواصم: ص 63 موقف عثمان من عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو مارنا اور وظیفہ روک لینا یہ بات بے بنیاد ہے۔

2: علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ (ت 748ھ) لکھتے ہیں:

وَأَمَّا قَوْلُكَ "ضَرْبُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَتَّى مَاتَ" فَهَذَا مِنْ أَشْمَجِ الْكُذِبِ الْمَعْلُومِ.

المنتقى من منهاج الاعتدال للذہبی: ص 409

ترجمہ: جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ ”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو مارا جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی“ تو یہ بات واضح جھوٹ ہے۔

3: مؤرخ حسین بن محمد دیار بکرمی الشافعی رحمہ اللہ (ت 982ھ) لکھتے ہیں:

أَمَّا مَا رَوَاهُ جَرِي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمَرَ غَلَامَهُ بِضَرْبِهِ إِلَى آخِرِ مَا قَرَّرُوهُ فَكُلُّهُ بُهْتَانٌ وَاخْتِلَاقٌ لَا يَصِحُّ مِنْهُ شَيْئٌ وَهَوَاءٌ الْجَهْلَةُ لَا يَتَحَامَوْنَ الْكُذْبَ فِيمَا يَرَوْنَهُ مُوَافِقًا لَا غَرَضَ لَهُمْ إِذْ لَا دِيَانَةَ تَرُدُّهُمْ لِذَلِكَ.

تاریخ الخمیس: ج 2 ص 270 الجواب عن الطعن العاشر

ترجمہ: لوگ یہ جو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو مارا پیٹا جائے تو یہ سب بہتان اور بے بنیاد بات ہے۔ اس حوالے سے کوئی بات درست نہیں ہے۔ (ایسی باتیں نقل کرنے والے) یہ جاہل لوگ اپنی (باطل) اغراض (کو ثابت کرنے) کے لیے جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے کیونکہ (ان میں) دیانت نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں جو انہیں اس (بہتان تراشی) سے باز رکھ سکے۔

جواب نمبر 2:

مذکورہ بالا واقعہ ”روایۃ“ درست نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ”درایۃ“ (عقلی طور پر) بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے باہمی تعلقات اس حد تک محبت کے تھے کہ باہمی لڑائی کی یہ بات تصور بھی نہیں جاسکتی۔ باہمی الفت و محبت پر چند دلائل ملاحظہ ہوں:

1: خلیفہ کے انتخاب میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حمایت کرنا۔

2: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنا۔

3: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھانا۔

ذیل میں ہر ایک کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔

(1): خلیفہ کے انتخاب میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حمایت کرنا:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب چھ صحابہ کرام رضوان اللہ

علیہم اجمعین میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے انتخاب کا مسئلہ پیش آیا تو اس موقع پر حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انتخاب کی حمایت کی۔ اس پر درج ذیل تصریحات ملاحظہ ہوں:

1: امام ابو عبد اللہ محمد ابن سعد ابن منیع رحمہ اللہ (ت 430ھ) لکھتے ہیں:

إِنَّا اجْتَمَعْنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَأَلْ عَنْ خَيْرِنَا
ذِي فَوْقِ فَبَايَعْنَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ.

الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ج 3 ص 46 ذکر بیعت عثمان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: (حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے فرمایا) ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ (حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد) جمع ہوئے اور ہم نے اپنے سے بہتر شخصیت کے خلیفہ منتخب کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ چنانچہ ہم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔

2: علامہ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی رحمہ اللہ (ت: 807ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

لَمَّا اسْتَخْلَفَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَرْنَا خَيْرًا مِّنْ بَقِيَ وَلَمْ نَأَلْ.

مجمع الزوائد: ج 9 ص 88 بحث فضائل عثمان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: ہم نے موجود لوگوں میں سے سب سے بہتر کو امیر مقرر کیا اور ہم نے اس معاملہ میں کوئی کوتاہی نہیں برتی۔

2: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنا:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں کوفہ سے

مدینہ منورہ آگئے تھے اور ان ایام میں آپ رضی اللہ عنہ پر بیماری کا شدید حملہ ہوا۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو آپ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔

حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب ابی حفص عمر بن کثیر دمشقی شافعی رحمہ اللہ (ت 774ھ) لکھتے ہیں:

ثُمَّ قَدِمَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَرَّ بِهَا فَجَاءَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَائِدًا.

البدایہ والنہایۃ لابن کثیر: ج 4 ص 175 تذکرۃ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ (کوفہ سے) مدینہ منورہ آئے اور وہاں بیمار ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔

3: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھانا:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔

امام ابو عبد اللہ محمد ابن سعد البصری رحمہ اللہ (ت 430ھ) لکھتے ہیں:

صَلَّى عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَاسْتَغْفَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِصَاحِبِهِ قَبْلَ مَوْتِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وَهُوَ أَثْبَتُ عِنْدَنَا أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّى عَلَيْهِ.

الطبقات الكبرى لابن سعد: ج 3 ص 118 ترجمۃ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے ان دونوں حضرات نے ایک دوسرے کے حق میں استغفار کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے ہاں ثابت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا۔

اعتراض نمبر 5: ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جلاوطن کرنا

امام ابو الحسن عزالدین علی بن ابی الکرم محمد بن محمد الشیبانی الجزری ابن الاثیر رحمہ اللہ (ت 630ھ) لکھتے ہیں:

ذُكِرَ تَسْيِيرُ أَبِي ذَرٍّ إِلَى الرَّبَذَةِ

وَفِي هَذِهِ السَّنَةِ كَانَ مَا ذُكِرَ فِي أَمْرِ أَبِي ذَرٍّ، وَاشْتِخَاصِ مُعَاوِيَةَ إِتْيَاكَ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي سَبَبِ ذَلِكَ أُمُورٌ كَثِيرَةٌ، مِنْ سَبَبِ مُعَاوِيَةَ إِتْيَاكَ وَتَهْدِيدِهِ بِالْقَتْلِ، وَحَمْلِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنَ الشَّامِ بِغَيْرِ وِطَاءٍ، وَنَفْيِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى الْوَجْهِ الشَّدِيدِ.

الکامل فی التاریخ لابن الاثیر: ج 3 ص 113 ذُكِرَ تَسْيِيرُ أَبِي ذَرٍّ إِلَى الرَّبَذَةِ

ترجمہ: حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مقام ربذہ کی طرف جلاوطن کرنا۔ اس سال (سن 30 ہجری میں) حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا (مدینہ منورہ سے مقام ربذہ کی طرف جلاوطنی کا) مذکورہ واقعہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انہیں شام سے مدینہ منورہ بھجوانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ کے اسباب میں کئی چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں گالیاں دی تھیں، انہیں قتل کی دھمکی دی تھی، شام سے مدینہ کی طرف بغیر سامان و اسباب کے بھیج دیا تھا اور انہیں مدینہ منورہ سے بہت برے طریقے سے جلاوطن کیا گیا تھا۔

اعتراض:

اس روایت کی بنیاد پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بغیر ساز و سامان اور سہولیات سفر کے شام سے مدینہ کی طرف ملک بدر کیا، پھر جب وہ

مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے یہی معاملہ کیا کہ بری طرح انہیں مقام زبدہ کی طرف جلا وطن کر دیا۔

جواب نمبر 1:

معارض کی یہ کس قدر بددیانتی ہے کہ اس نے اعتراض تو نقل کر دیا ہے لیکن مصنف نے جو ان وجوہات کو نقل کرنے کے بعد آگے خود ان کی تردید کی ہے، معارض نے اسے نقل نہیں کیا۔

واضح رہے کہ امام ابوالحسن عزالدین علی بن ابی الکرم محمد بن محمد الشیبانی الجزری ابن الاثیر رحمہ اللہ (ت 630ھ) اس بات کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

لَا يَصِحُّ التَّقْلِيدُ بِهِ.

الکامل فی التاریخ لابن اثیر: ج 3 ص 114 ذِکْرُ تَسْيِيرِ أَبِي ذَرٍّ إِلَى الرَّبَذَةِ

ترجمہ: ان تمام تر باتوں کے متعلق کوئی صحیح روایت منقول نہیں۔

جواب نمبر 2:

یہ واقعہ ان واہیات و خرافات کے ساتھ بالکل ثابت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ مؤرخین نے اس کے غلط ہونے کی تصریح کی ہے۔

ذیل میں چند تصریحات ملاحظہ ہوں:

1: امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: يَا أَبَا سَعِيدٍ! عُمَانُ أَخْرَجَ أَبَا ذَرٍّ؟ قَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ.

التاریخ الکبیر للبخاری: ج 6 ص 403 ترجمہ غالب بن ابی غیلان

ترجمہ: حضرت غالب القطان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری

رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ اے ابو سعید (یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی کنیت ہے) کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے نکالا تھا؟ تو وہ کہنے لگے معاذ اللہ؟ (یعنی اللہ کی پناہ! ایسا ہرگز نہیں ہوا تھا بلکہ وہ تو اپنی مرضی سے تشریف لے گئے تھے)

2: امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر الطبری رحمہ اللہ (ت 310ھ) روایت کرتے ہیں:

وَأَمَّا الْآخَرُونَ، فَإِنَّهُمْ رَوَوْا فِي سَبَبِ ذَلِكَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً، وَأُمُورًا شَذِيعَةً، كَرِهْتُ ذِكْرَهَا.

تاریخ الطبری: ج 4 ص 286 اخبار ابی ذر رضی اللہ عنہ

ترجمہ: لوگوں نے اس معاملہ (یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ربذہ کی طرف خروج کے واقعہ) میں بہت سی چیزیں اور قبیح باتیں ذکر کر دی ہیں جن کا تذکرہ کرنا بھی میں اچھا نہیں سمجھتا۔

3: محمد بن یحییٰ بن محمد ابی بکر الاشعری الاندلسی رحمہ اللہ (ت 741ھ) لکھتے ہیں:

وَأَمَّا مَا ذُكِرَ فِي سَبَبِ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْأُمُورِ الشَّذِيعَةِ؛ سَبَبِ مُعَاوِيَةَ إِيَّاكَ وَتَهْدِيدِهِ بِالْقَتْلِ، وَحَمْلِهِ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ بِغَيْرِ وِطَاءٍ وَنَفْيِهِ فَلَا يَصِحُّ التَّقْلُّ بِهِ بَلْ هُوَ مِنْ أَكَاذِيبِ الرَّافِضَةِ قَبَّحَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

کتاب التہدید والبیان فی مقتل الشہید: ص 84 ذکر حدیث ابی ذر رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جلا وطنی کے متعلق جو بے سرو پا وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں سب و شتم کیا تھا، قتل کی دھمکی دی تھی اور انہیں ملک شام سے مدینہ منورہ کی طرف بغیر سواری کے

نکال دیا تھا تو ان تمام تر باتوں کے متعلق کوئی صحیح روایت منقول نہیں بلکہ یہ سب روافض کی کذب بیانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غارت کرے۔

جواب نمبر 3:

درج ذیل تفصیلی امور پر غور کیا جائے تو اعتراض ختم ہو جاتا ہے:

[1]: حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے شام سے مدینہ منورہ آنے کا سبب

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ جب شام میں رہائش پذیر تھے تو ان کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک آیت کے فہم میں اختلاف ہو گیا تھا۔ آیت مبارکہ یہ تھی:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

سورة التوبة: رقم الآية: 34

ترجمہ: جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ سونا چاندی جمع کر کے رکھنا جائز نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ استدلال میں یہی آیت پیش کرتے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سونا چاندی جمع کرنے سے منع فرمایا ہے اور منع کا یہ حکم ہم مسلمانوں اور اہل کتاب دونوں کے بارے میں ہے۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ اس آیت میں وارد وعید ﴿يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾ [ترجمہ: جس دن اس خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا] کو بیان کر کے لوگوں کو خوف دلاتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا

کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو اہل کتاب ہی کا تذکرہ ہے۔

اس پس منظر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی شکایت کی کیونکہ ان کے موقف بیان کرنے سے لوگوں میں خلفشار ہوتا تھا اور لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے شکایت کرتے تھے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ عظیم علم و فضل کے مالک تھے اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے احترام کے پیش نظر خود کچھ کہنے کے بجائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ وہ اس صورت حال کو سلجھائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مدینہ آجائیں اور یہیں رہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لائے۔

واضح رہے کہ جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا موقف یہی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس کے بعد بھی اس کے پاس سونا چاندی، دراہم اور دنانیر جمع رہے تو وہ اس ”کنز“ میں داخل نہیں جس کے جمع کرنے پر آیت مذکورہ میں دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ آیت میں اس ”کنز“ کے جمع کرنے پر جو وعید ہے وہ یا تو اہل کتاب کے لئے ہے جو لوگوں کے اموال ناحق طریقے سے جمع کر کے خزانے بناتے رہتے تھے (جیسا کہ آیت کے سیاق و سباق میں مذکور ہے) یا اس آیت کی وعید کا مصداق مانعین زکوٰۃ ہیں۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کے پاس لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا اور لوگوں کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر شخص یہی سوال کرتا کہ آپ یہاں کیوں آئے؟ لوگوں کے سوالات سے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

سے یہ صورت حال عرض کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حالات و واقعات کے پیش نظر انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ مدینہ کے کنارے (مقام ربذہ) میں چلے جائیں تو لوگوں کے ان سوالات سے چھٹکارا ملے گا۔ چنانچہ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ مقام ربذہ میں چلے گئے اور وفات تک وہیں قیام پذیر رہے۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت نقل

کرتے ہیں:

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هَذَا؟ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فَأَخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ مُعَاوِيَةُ: نَزَلْتُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ: نَزَلْتُ فِيْنَا وَفِيهِمْ فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَلِكَ وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَشْكُونِي فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنِ اقْدِمِ الْمَدِينَةَ فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى كَانَتْهُمْ لَمْ يَرُونِي قَبْلَ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَتَخَيَّبَ. فَكُنْتُ قَرِيبًا فَذَكَ الْإِلَٰهِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ وَلَوْ أَمَرُوا عَلَيَّ حَبْشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ.

صحیح البخاری: رقم الحدیث 1406

ترجمہ: حضرت زید بن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا گزر مقام ربذہ کے قریب سے ہوا۔ وہاں مجھے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ملے۔ میں نے پوچھا: (شہر چھوڑ کر) یہاں (دیہات میں) کیسے آئے؟ فرمایا: میں شام میں تھا۔ میرا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت ﴿الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ کے متعلق اختلاف ہو گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں اتنی ہے اور میں یہ کہتا تھا کہ یہ آیت ہم

مسلمانوں اور اہل کتاب دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہم دونوں میں خوب بحث ہوئی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو میری شکایت لکھ بھیجی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے مدینہ آنے کا حکم دیا: میں مدینہ منورہ پہنچا۔ لوگ کثرت سے میرے ارد گرد جمع ہونے لگے گویا کہ انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس ہجوم کا ذکر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا: اگر تم چاہو تو مدینے کے قریب کسی گوشے میں رہائش اختیار کرو۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہاں رہنے لگا ہوں۔ اگر میرا میر کسی حبشی کو بھی بنایا جاتا تو میں اس کی بات سنتا اور اطاعت کرتا۔

فائدہ: ”ربذہ“ مدینہ منورہ سے تین منزل پر ایک گاؤں ہے۔

[2]: حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر ہی مدینہ منورہ سے مقام ربذہ کی طرف اپنی خوشی اور اختیار سے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں جانے پر مجبور نہیں کیا تھا بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ ہی میں قیام پذیر رہیں لیکن حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک تھا جس کا حوالہ دے کر انہوں نے اجازت لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت بھی دی اور ساتھ کچھ اونٹ اور دو غلام بھی ان کی خدمت کے لیے عنایت کیے۔

امام ابوالحسن عزالدین علی بن ابی اکرم محمد بن محمد الشیبانی الجزری ابن الاثیر رحمہ اللہ (ت 630ھ) لکھتے ہیں:

فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ لِعُثْمَانَ: تَأْذَنُ لِي فِي الْخُرُوجِ مِنَ الْمَدِينَةِ؟ فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنِي بِالْخُرُوجِ مِنْهَا إِذَا بَلَغَ الْبِنَاءَ سَلْعًا. فَأَذِنَ لَهُ. فَتَوَلَّى الرَّبَذَةَ وَبَنَى بِهَا مَسْجِدًا، وَأَقْطَعَهُ عُثْمَانُ صِرْمَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَاهُ

فَمَلُّوْا كَثِيْرًا وَّ اَجْرِيْ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ عَطَاءً.

الکامل فی التاریخ لابن اثیر ج 3 ص 115 باب ذِکْرِ تَسْبِيْرِ اَبِيْ ذَرٍّ اِلَى الرَّبَذَةِ

ترجمہ: حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا: کیا آپ مجھے مدینہ سے جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ جب مدینہ کی آبادی سلحہ نامی پہاڑی تک پہنچ جائے تو یہاں سے ہجرت کر جانا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ مقام ربذہ میں رہائش پذیر ہوئے اور وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں چند اونٹوں کا ایک گلہ دیا اور ساتھ ہی دو خادم بھی عطا کیے۔ نیز (بقدر کفایت بیت المال سے) ان کے لیے یومیہ وظیفہ بھی جاری کر دیا۔

امام ابو عبد اللہ محمد ابن سعد ابن منیع البصری رحمہ اللہ (ت 430ھ) لکھتے ہیں:

فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ لَهُ عُثْمَانُ: كُنْ عِنْدِيْ تَعْدُوْ عَلَيْكَ وَتَرَوْحُ الْفَلَاَحُ. قَالَ: لَا حَاجَةَ لِيْ فِيْ دُنْيَاكُمْ. ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِيْ حَتّٰى اَخْرُجَ اِلَى الرَّبَذَةِ. فَاِذِنْ لَهُ فَخَرَجَ اِلَى الرَّبَذَةِ وَقَدْ اُقْبِمَتِ الصَّلٰوةُ وَعَلَيْهَا عَبْدٌ لِّعُثْمَانَ حَبَشِيٌّ فَنَاحَرَ فَقَالَ اَبُو ذَرٍّ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ فَقَدْ اُمِرْتُ اَنْ اَسْمَعَ وَاَطِيعَ وَلَوْ لِعَبْدٍ حَبَشِيٍّ فَاَنْتَ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ.

الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ج 4 ص 171 ترجمۃ ابوذر واسمہ جندب رضی اللہ عنہ

ترجمہ: جب حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ میرے پاس قیام رکھیں۔ صبح وشام دودھ دینے والی اونٹیاں آپ کو پیش کی جائیں گی۔ فرمانے لگے: مجھے آپ کی دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر فرمایا: مجھے اجازت مرحمت فرمائیے تاکہ میں ربذہ چلا جاؤں

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت عطا فرمادی۔ (ربذہ تشریف لانے کے بعد نماز کا وقت آیا تو) نماز کی اقامت کہی گئی۔ وہاں نماز پڑھانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک حبشی غلام امام مقرر کیا گیا تھا۔ وہ غلام پیچھے ہٹے لگا تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا: کہ جماعت کراؤ۔ مجھے تو کہا گیا ہے کہ اگر حبشی غلام ہی حاکم ہو تو اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو بھی تو حبشی غلام ہے۔ (لہذا تیری اقتدا میں نماز پڑھوں گا، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔)

فائدہ: اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے دل میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا کس حد تک احترام تھا کہ آپ کے مقرر کردہ غلام کو امامت سے پیچھے ہٹانا گوارہ نہیں کیا۔

[3]: حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ربذہ میں قیام پذیر رہے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کی وفات کے بعد ان کے اہل و عیال کو مدینہ بلایا تھا اور انہیں اپنے عیال کا حصہ بنالیا تھا۔

حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب ابی حفص عمر بن کثیر دمشقی شافعی رحمہ اللہ (ت 774ھ) لکھتے ہیں:

ثُمَّ نَزَلَ الرَّبَذَةَ فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ،
وَلَيْسَ عِنْدَهُ سِوَى أَمْرَاتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَبَيَّعَهُمْ كَذَلِكَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى دَفْنِهِ إِذْ
قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنَ الْعِرَاقِ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَخَضَرُوا مَوْتَهُ،
وَأَوْصَاهُمْ كَيْفَ يَفْعَلُونَ بِهِ، وَقِيلَ: قَدِمُوا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَوَلُّوا غُسْلَهُ وَدَفْنَهُ،
وَكَانَ قَدْ أَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَطْبَعُوا لَهُمْ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ لِيَأْكُلُوهُا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَقَدْ
أَرْسَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ إِلَى أَهْلِهِ فَضَبَّاهُمْ مَعَ أَهْلِهِ.

الہدایۃ والنہایۃ لابن کثیر: ج 4 ص 177 تذکرۃ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ مقام ربذہ پہنچے، وہیں قیام کیا۔ اسی سال ذوالحجہ (32 ہجری) کے مہینہ میں انتقال فرما گئے۔ ان کے گھر میں صرف ان کی بیوی اور بچے تھے۔ اہل خانہ ان کے دفن و کفن پر قادر نہیں تھے۔ اسی دوران عراق سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت حضرت ابوذر غفاری مرض الوفا میں تھے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے انہیں وصیت فرمائی کہ میرے مرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد وہاں پہنچے تھے۔ بہر حال انہوں نے ان کے کفن و دفن کا انتظام کیا اور انہوں نے (حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ) نے اپنی بیوی کو (قبل الوفا) کہا ہوا تھا کہ بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری ذبح کر لینا تاکہ میرے انتقال کے بعد یہ حضرات کھانے سے محروم نہ رہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ مقام ربذہ سے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال کو ان کے پاس (مدینہ منورہ) لے آئے۔ جب وہ لے کر آگیا تو آپ نے اُن کو بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ ملا لیا۔

اعتراض نمبر 6: مردہ بیوی کے ساتھ جماع کرنا

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْنَا بِنَتْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ- قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ قَالَ، فَقَالَ: "هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يَقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟" فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا. قَالَ: "فَأَنْزِلْ". قَالَ: فَانْزَلَ فِي قَبْرِهَا.

صحیح البخاری: رقم الحدیث 1285

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات کے موقع پر حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج رات مباشرت نہ کی ہو تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں اترو۔ چنانچہ وہ قبر میں اترے (اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دفن کیا۔)

اعتراض:

اس روایت کی بنیاد پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کہ ”آج کی رات جس نے مباشرت نہ کی ہو“ کے جواب میں صرف حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے جماع کیا تھا اور اس وقت ان کے نکاح میں صرف حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھیں وہ بھی اسی رات انتقال کر گئی تھیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی مردہ بیوی سے جماع کیا تھا۔ العیاذ باللہ

جواب نمبر 1:

اس روایت میں یا اس کے علاوہ کسی بھی روایت میں یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی مردہ بیوی سے جماع کیا ہو۔

علامہ حافظ ابوالفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی الشافعی رحمہ اللہ (ت 852ھ) فرماتے ہیں:

وَلَيْسَ فِي الْحَبْرِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ وَقَعَ بَعْدَ مَوْتِهَا بَلْ وَلَا حِينَ اخْتِصَارِهَا.

فتح الباری شرح صحیح البخاری: ج 3 ص 159 باب قول النبی ﷺ يعذب الميت بعض

بكاء اھلہ علیہ

ترجمہ: اس حدیث کے کسی لفظ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد ان سے جماع کیا تھا بلکہ اس سے تو یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے سیدہ کی وفات سے پہلے ایسا کیا ہو۔

جواب نمبر 2:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی باندی کے ساتھ جماع کیا تھا نہ کہ اپنی بیوی سے۔

چنانچہ اس پر محدثین کرام کی تصریحات ملاحظہ ہوں:

1: علامہ حافظ ابوالفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی الشافعی رحمہ

اللہ (ت 852ھ) فرماتے ہیں:

السُّبْرُ فِي إِيجَارِ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى عُمَانَ أَنَّ عُمَانَ كَانَ قَدْ جَامَعَ بَعْضَ جَوَارِيهِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَتَلَطَّفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْعِهِ مِنَ التُّزْوِلِ فِي

قَبْرِ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ تَصْرِيحٍ.

فتح الباری شرح صحیح البخاری: ج 3 ص 159 باب قول النبی ﷺ یعذب المیت بعض

بکاء اہلہ علیہ

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو ترجیح دینے میں راز یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی کسی باندی سے اس رات جماع کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس بات کی تصریح کیے بغیر ان کی بیوی کی قبر میں اترنے سے منع فرمادیا۔

2: حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی الحنفی رحمہ اللہ (ت 855ھ) لکھتے ہیں:

وَيَقَالُ: إِنَّ عُثْمَانَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بَاشَرَ جَارِيَةً لَهُ، فَعَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَلَمْ يُعْجِبْهُ حَيْثُ شَغَلَ عَنِ الْهَرِيصَةِ الْمُحْتَضِرَةِ بِهَا وَهِيَ أُمُّ كُلْثُومٍ زَوْجَتُهُ بِنْتُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَ أَنَّهُ لَا يَنْزِلُ فِي قَبْرِهَا مُعَاتَبَةً عَلَيْهِ، فَكَلَّمِي بِهِ عَنْهُ.

عمدة القاری شرح صحیح البخاری: ج 6 ص 105 کتاب الجنائز باب قول النبی ﷺ یعذب المیت

بعض بکاء اہلہ علیہ

ترجمہ: کہا گیا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اسی رات کو جس رات حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، اپنی ایک باندی سے جماع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا۔ تو آپ نے اس کو اچھا نہ سمجھا کیوں کہ ایک ایسی مریضہ سے روگردانی کرنا جو قریب المرگ ہو کوئی اچھی بات نہیں۔ یہ مریضہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھیں جو حضرت عثمان کی زوجہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ تو اس روگردانی کی وجہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بطور تنبیہ قبر میں نہ اترنے دیا جائے۔ تو آپ نے اشارہ کنایہ کے

ذریعہ ان کو تنبیہ کردی۔

3: ملا علی القاری الہروی الحنفی رحمہ اللہ (ت 1014ھ) لکھتے ہیں:

قِيلَ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ إِزَادَةً أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ عُمَانَ - وَكَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي تُوفِّيَتْ - هَلْ خَالَطَ أَمْرًا أَتَى - أَيْ الْأُخْرَى - تِلْكَ اللَّيْلَةَ؟ فَلَمْ يَقُلْ عُمَانُ: لَمْ أَقَارِفْ أَكَا.

مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح: ج 4 ص 171 کتاب الجنائز باب دفن المیت

ترجمہ: کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے معلوم کرنا چاہا کہ میری بیٹی ام کلثوم کے انتقال والی رات کو تم نے کسی دوسری عورت سے ہم بستری کی ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی دوسری عورت سے جماع نہیں کیا (بلکہ خاموش رہے جس کا مطلب تھا کہ انہوں نے دوسری عورت یعنی باندی سے جماع کیا ہے)

4: شیخ عبدالحق بن سیف الدین دہلوی رحمہ اللہ (ت 1052ھ) لکھتے ہیں:

گفت انس حاضر شدیم ما دختر آن حضرت را در حالے کہ دفن کردہ می شود و آن ام کلثوم بود کہ زوجہ عثمان بود و حال آنکہ آنحضرت نشستہ بود نزد قبر پس دیدم من ہر دو چشم آنحضرت را کہ اشک می ریختند پس گفت آنحضرت آیا ہست در میان شما ہیچ یکے کہ گناہے نہ کردہ است یا جماع نہ کردہ است بازن امشب... و گفتہ اند کہ عثمان دریں شب یکے از کنیز کاں خود را پیش خود طلبیدہ بود و جماع کرد پس آن حضرت تعریض بوے کرد در منع کردن وے از نزول۔

اشعة المعات شرح المشكاة: ج 1 ص 347، 348 کتاب الجنائز باب دفن المیت

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی تجہیز و تکفین کے وقت حاضر ہوا۔ یہ خاتون حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں۔ اس وقت حضور ﷺ ان کی قبر کے قریب تشریف فرما تھے۔ میں

نے دیکھا کہ حضور ﷺ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا: کیا تم حاضرین میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج رات اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو؟ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس رات اپنی ایک باندی کو اپنے پاس بلوایا تھا اور اس سے ہم بستری کی تھی۔ اس لیے حضور ﷺ نے انہیں تعریض و تنبیہ فرمائی کیونکہ انہوں نے بے احتیاطی سے کام لیا تھا۔ تنبیہ کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ انہیں اپنی ہی زوجہ کی قبر میں اترنے سے روک دیا۔

اشکال:

جب بیوی بیمار تھی تو اس حالت میں باندی سے جماع کرنا مناسب نہ تھا۔

جواب نمبر 1:

ممکن ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی بیماری بڑھ گئی ہو اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جماع کی خواہش ہوئی ہو تو انہوں نے اپنی باندی سے جائز طریقہ سے اس خواہش کی تکمیل کی ہو، اور انہیں اس بات کا تو علم نہیں تھا کہ میری بیوی اسی رات انتقال کر جائیں گی۔

علامہ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی الشافعی رحمہ

اللہ (ت 852ھ) فرماتے ہیں:

وَيُجَابُ عَنْهُ بِإِحْتِمَالٍ أَنْ يَكُونَ مَرَضُ الْمَرْأَةِ طَالًا وَاحْتِاجَ عُثْمَانَ إِلَى الْوُقَاعِ وَلَمْ يَظَنَّ عُثْمَانُ أَنَّهَا تَمُوتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.

فتح الباری شرح صحیح البخاری: ج 3 ص 159

ترجمہ: اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی بیماری بڑھ گئی ہو۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جماع کی خواہش ہوئی ہو اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ خیال نہ ہو کہ میری زوجہ اسی رات انتقال کر جائیں گی۔

جواب نمبر 2:

ایک بیوی کی بیماری کی صورت میں دوسری بیوی سے یا باندی سے جماع کرنا شرعاً ناجائز بھی نہیں ہے۔

جواب نمبر 3:

سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ناراض ہوتے تو یوں ارشاد نہ فرماتے کہ اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی میں عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیتا۔ چنانچہ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ (ت 360ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ عِصْمَةَ، قَالَ: لَمَّا مَاتَتْ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَتَى تَحْتَ عُثْمَانَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَوِّجُوا عُثْمَانَ، لَوْ كَانَ لِي ثَلَاثَةٌ لَزَوَّجْتُهُ وَمَا زَوَّجْتُهُ إِلَّا بِالْوَجْهِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

المعجم الكبير للطبرانی: ج 7 ص 86 رقم الحديث 13926 ترجمہ: حضرت عصفہ (بن مالک الخطمی) رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی (حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا) جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں فوت ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عثمان کی شادی کراؤ، اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی میں عثمان (رضی اللہ عنہ) کے ساتھ کر دیتا اور میں نے اس کی شادی وحی کے مطابق ہی کی تھی۔

نیز ایک روایت میں دس اور ایک میں چالیس بیٹیوں کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی (ت 360ھ)

روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ ابْنَتِهِ الثَّانِيَةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: لَوْ كُنَّ عَشْرًا لَزَوَّجْتُهُنَّ عُثْمَانَ وَمَا زَوَّجْتُهُ إِلَّا بِوَحْيٍ مِنَ السَّمَاءِ.

المعجم الكبير للطبرانی: ج 9 ص 384، 385 رقم الحديث 18495

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی (ایک طویل حدیث میں) ہے کہ اللہ کے رسول اپنی دوسری صاحبزادی (سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا) جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، کی قبر کے قریب کھڑے ہوئے اور فرمایا: اگر میری دس بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں ان کی شادی عثمان (رضی اللہ عنہ) سے کرتا۔ اور میں نے عثمان کا نکاح (اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ) وحیِ سماوی کے مطابق کیا تھا۔ اسی طرح امام ابو العباس احمد بن عبد اللہ بن محمد محب الدین الطبری رحمہ اللہ (ت 694ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَوْ كَانَ عِنْدِي أَرْبَعُونَ بِنْتًا لَزَوَّجْتُ عُثْمَانَ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ."

الرياض النضرة في مناقب العشرة: ج 3 ص 11 الفصل السادس في خصائصه

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتیں تو یکے بعد دیگرے ان کی شادی عثمان (رضی اللہ عنہ) کے ساتھ کر دیتا یہاں تک کہ کوئی بھی باقی نہ رہتی۔

اعتراض نمبر 7: سفر میں نماز مکمل پڑھنا

امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ (ت 303ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَّى عُثْمَانُ يَمْعَى أَرْبَعًا حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ: لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ.

سنن النسائی: رقم الحدیث 1450

ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منیٰ میں چار رکعات پڑھیں۔ جب اس بات کا علم حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو رکعت پڑھی تھیں۔

اعتراض:

اس حدیث کے پیش نظر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حج کے موقع پر منیٰ کے مقام پر چار رکعت نماز ادا کی حالانکہ وہ مسافر تھے اور مسافر کے لیے دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔

جواب:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مکہ میں شادی کر لی تھی اور اقامت کا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ ظاہر ہے مقیم مکمل نماز پڑھتا ہے نہ کہ قصر۔

1: امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل البغدادی رحمہ اللہ (ت 241ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ

عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بِمَعْنَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَأَنْكَرَهُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي تَأَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ".

مسند احمد: ج 1 ص 354 رقم الحديث 443 مسند عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی ذباب اپنے والد گرامی حضرت عبد الرحمن بن ابی ذباب رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے منی کے مقام میں لوگوں کو چار رکعات نماز پڑھائی۔ اس پر لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے لوگو! میں جب مکہ میں آیا تو میں نے یہاں نکاح کر لیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص کسی شہر میں نکاح کر لے (اور اہل خانہ کو وہیں آباد کرنے کا ارادہ کر لے) تو وہ وہاں مقیم کی نماز ادا کرے۔

2: حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب ابی حفص عمر بن کثیر دمشقی شافعی رحمہ اللہ (ت 774ھ) ذکر کرتے ہیں:

وَأَمَّا إِتِمَامُهُ الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ، فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ تَأَهَّلَ بِهَا وَتَوَى الْإِقَامَةَ فَأَتَمَّهَا.

البدایۃ والنہایۃ لابن کثیر: ج 4 ص 183 ثم دخلت سنة خمس ومثلان

ترجمہ: (سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہی اعتراض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مکہ مکرمہ میں مکمل نماز پڑھنا اس لیے تھا کہ انہوں نے وہاں نکاح کر لیا تھا اور اقامت کا ارادہ بھی کر لیا تھا اس لیے انہوں نے اتمام کیا (یعنی چار رکعت نماز ادا کی ہے۔)

اعتراض نمبر 8: جمعہ کی اذان ثانی کا اضافہ کرنا

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الْبَدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ الْبَدَاءُ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوَرَاءِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الزَّوَرَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ.

صحیح البخاری: رقم الحدیث 912

ترجمہ: حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جب امام منبر پر خطبہ کے لیے بیٹھ جاتا تھا اس وقت جمعہ کی پہلی اذان دی جاتی تھی لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی تو آپ رضی اللہ عنہ مقام زوراء سے ایک اور اذان دلوانے لگے۔ امام ابو عبد اللہ (امام بخاری رحمہ اللہ) فرماتے ہیں: زوراء مدینہ کے بازار میں ایک جگہ ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر الطبری رحمہ اللہ (ت 310ھ) فرماتے ہیں:

فِي هَذِهِ السَّنَةِ (30 هجری) زَادَ عُثْمَانُ الْبَدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوَرَاءِ.

تاریخ الطبری: ج 5 ص 68 تحت آخر سنة ثلاثين

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سال (30 ہجری میں) الزوراء کے مقام پر تیسری اذان کا اضافہ کیا۔

اعتراض:

مذکورہ بالا روایات کی روشنی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے جمعہ کی اذان کا اضافہ کیا۔

جواب نمبر 1:

اگر کوئی مسئلہ قرآن و سنت سے صراحت کے ساتھ ثابت نہ ہو اور خلیفہ راشد اسے اجتہاد سے حل کرے اور اس اجتہاد کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قبول بھی کر لیں تو اس اجتہاد کی حیثیت سنت کی بن جاتی ہے۔ یہ وہ سنت ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دے کر اس پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا ہے۔

امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث رحمہ اللہ (ت 275ھ) روایت نقل کرتے

ہیں:

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودِعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: "أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّجْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَظُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ."

سنن ابی داؤد: رقم الحدیث 4607

ترجمہ: حضرت عریاض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ پھر آپ علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں ایک نہایت مؤثر خطبہ دیا جس سے آنکھیں اشک بار ہو

گئیں اور دل کانپ اٹھے۔ (مجمع میں سے) ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ! اس خطبہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ (اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو) ہمیں کچھ وصیت فرمادیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور امیر کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرتے رہنا اگرچہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے تو وہ بہت اختلافات دیکھیں گے۔ تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل پیرا رہنا اور اسے دانتوں سے (مضبوطی کے ساتھ) پکڑنا۔

فائدہ:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت دیکھنے میں اگرچہ دو ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہی ہیں کہ دونوں پر عمل پیرا ہونا لازم ہے۔ اس لئے اس حدیث میں ”تَمَسَّكُوا بِهَا“ فرمایا ”تَمَسَّكُوا بِهَمَا“ نہیں فرمایا۔

جواب نمبر 2:

اگر کوئی مسئلہ قرآن و سنت سے صراحت کے ساتھ ثابت نہ ہو اور خلیفہ راشد اسے اجتہاد سے حل کرے اور اس اجتہاد کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قبول بھی کر لیں تو اس اجتہاد کی حیثیت اجماع کی بن جاتی ہے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت بکثرت موجود تھی، ان سب کا اس فیصلہ کو تسلیم کر لینا اور مخالفت نہ کرنا خلیفہ راشد کے اجتہاد کے اجماع بن جانے کی دلیل ہے۔

1: حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی الحنفی رحمہ اللہ (ت 855ھ) لکھتے ہیں:

وَلِكَيْتَهُ ثَالِثٌ بِإِعْتِبَارِ شَرْعِيَّتِهِ بِاجْتِهَادِ عُمَمَانٍ وَمُوَافَقَةِ سَائِرِ

الصَّحَابَةُ لَهُ بِالسُّكُوتِ وَعَدِمِ الْإِنْكَارِ، فَصَارَ إِجْمَاعًا سَكُوتِيًّا.

عمدة القاری شرح صحیح البخاری: ج 5 ص 73 کتاب الجمعة باب الاذان يوم الجمعة

ترجمہ: یہ اذان تیسری شمار ہوتی ہے کیونکہ اسے (خلیفہ راشد) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد سے جاری کروایا تھا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سکوت فرما کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی موافقت کی تھی اور انکار نہیں کیا تھا تو یہ اجماع سکوتی ہوا۔

2: محشی صحیح بخاری مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ (ت 1297ھ) لکھتے ہیں:

إِنَّ عُثْمَانَ زَادَ الْآذَانَ الثَّالِثَ الَّذِي هُوَ الْأَوَّلُ فِي الْوُجُودِ وَلَكِنَّهُ ثَالِثٌ بِاعْتِبَارِ شَرْعِيَّتِهِ بِاجْتِهَادِ عُثْمَانَ وَمُؤَافَقَةِ سَائِرِ الصَّحَابَةِ لَهُ بِالسُّكُوتِ وَعَدِمِ الْإِنْكَارِ، فَصَارَ إِجْمَاعًا سَكُوتِيًّا وَالْآذَانُ الثَّالِثُ فِي الْوُجُودِ هُوَ الْإِقَامَةُ.

حاشیہ صحیح البخاری: ج 1 ص 124 باب الاذان يوم الجمعة

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیسری اذان کا اضافہ کیا جو وجود کے اعتبار سے پہلی ہے (کیونکہ یہ پہلے دی جاتی ہے) لیکن اس اعتبار سے تیسری شمار ہوتی ہے کہ اسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد سے جاری کروایا تھا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سکوت فرما کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی موافقت کی تھی اور انکار نہیں کیا تھا تو یہ اجماع سکوتی ہوا، اور وجود کے اعتبار سے تیسری اذان سے مراد اقامت ہے (کیونکہ وہ آخر میں دی جاتی ہے)۔

اعتراض نمبر 9: مدینہ منورہ کی اجتماعی چر اگاہ کو ذاتی

استعمال میں لانا

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی اجتماعی چر اگاہ کو اپنی ذاتی تحویل میں لے لیا تھا۔

جواب:

یہ چر اگاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدقہ کے اونٹوں کے لیے خاص کی تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے اس چر اگاہ کو وسیع کر دیا کیونکہ اونٹوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس چر اگاہ کو اپنی ذاتی تحویل میں نہیں لیا تھا۔ اس پر چند تصریحات ملاحظہ ہوں:

1: امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر الطبری رحمہ اللہ (ت 310ھ) روایت کرتے ہیں:

وَأَمَّا الْجُمْلَى فَإِنَّ عُمَرَ حَمَى الْجُمْلَى قَبْلِي لِإِبْلِ الصَّدَقَةِ فَلَمَّا وَلَّيْتُ زَادَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَزِدْتُ فِي الْجُمْلَى لِمَا زَادَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

تاریخ الطبری: ج 5 ص 107 تحت روایت مناظرۃ القوم عثمان رضی اللہ عنہ و سبب حصار ہم

ترجمہ: (حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا) جہاں تک چر اگاہ کا تعلق ہے تو مجھ سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدقہ کے اونٹوں کے لیے اس چر اگاہ کو خاص کیا تھا، جب مجھے حاکم بنایا گیا تو صدقہ کے اونٹوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے صدقہ کے اونٹوں میں اضافے کی وجہ سے اس چر اگاہ میں توسیع کر لی تھی۔

2: علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ

(ت 748ھ) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں:

وَأَمَّا الْجُمْلَىٰ فَوَ اللَّهِ مَا حَمَيْتُهُ لِإِبِلٍ وَلَا لِعَجَبٍ، وَإِنَّمَا حَمَيْتُهُ لِإِبِلِ
الصَّدَقَةِ.

تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام للذہبی: ج 3 ص 430 سَنَةِ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ
ترجمہ: (حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا) اللہ کی قسم! چراگاہ میں نے
اپنے اونٹوں اور بکریوں کے لیے استعمال نہیں کی بلکہ میں نے اسے صدقہ کے اونٹوں
کے لیے خاص کیا تھا۔

3: حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب ابی حفص عمر بن کثیر دمشقی
شافعی رحمہ اللہ (ت 774ھ) لکھتے ہیں:

فَأَجَابَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا الْجُمْلَىٰ فَإِنَّمَا حَمَاهُ لِإِبِلِ
الصَّدَقَةِ لِتَسْمَنِ، وَلَمْ يَحْمِهِ لِإِبِلِهِ وَلَا لِعَجَبِهِ وَقَدْ حَمَاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ
قَبْلِهِ.

البدایہ والنہایہ لابن کثیر: ج 4 ص 183 ثم دخلت سنة خمس وثلاثين
ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ
چراہ گاہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صدقہ کے اونٹوں کے لیے استعمال کی ہے تاکہ
وہ اس میں چرا کر موٹے تازے ہو جائیں۔ یہ چراہ گاہ انہوں نے اپنے ذاتی اونٹوں اور
بکریوں کے لیے استعمال نہیں کی۔ ان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل
بھی یہی تھا کہ وہ اس چراہ گاہ کو صرف صدقہ کے اونٹوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔
یعنی یہ چراہ گاہ ریاستی تحویل میں پہلے سے تھی البتہ اونٹوں میں اضافہ ہو
جانے کی وجہ سے چراہ گاہ میں توسیع کر دی گئی۔ اس لیے چراہ گاہ کو ذاتی تحویل میں لینے
کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اعتراض نمبر 10: حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان

رضی اللہ عنہ پر لگائے جانے والے الزامات کو درست سمجھنا

امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر الطبری رحمہ اللہ (ت 310ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

وَأُرْسِلَ عُمَارُ بْنُ يَاسِرٍ إِلَى مِصْرَ، وَأُرْسِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى الشَّامِ، وَفَرَّقَ رَجَالًا سِوَاهُمُ، فَرَجَعُوا جَمِيعًا قَبْلَ عُمَارٍ فَقَالُوا: أَيُّهَا النَّاسُ! مَا أَنْكَرْنَا شَيْئًا وَلَا أَنْكَرَهُ أَعْلَامُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا عَوَامُّهُمْ. وَقَالُوا جَمِيعًا: الْأَمْرُ أَمْرُ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا أَنْ أَمْرَاءَهُمْ يُقْسِطُونَ بَيْنَهُمْ، وَيَقُومُونَ عَلَيْهِمْ وَاسْتَبْطَأَ النَّاسُ عُمَارًا حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ اغْتِيلَ، فَلَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا كِتَابٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْجٍ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ عُمَارًا قَدْ اسْتَبَالَهُ قَوْمٌ بِمِصْرَ وَانْقَطَعُوا إِلَيْهِ. مِنْهُمْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّوْدَاءِ، وَخَالِدُ بْنُ مُلْجَمٍ، وَسُودَانُ بْنُ حُمَرَانَ، وَكِتَانَةُ بْنُ بَشِيرٍ.

تاریخ الطبری: ج 4 ص 341 باب ذکر مسیر من ساری الى ذی خشب

ترجمہ: (عبداللہ بن سبا نے مختلف علاقوں میں اپنے کارندے پھیلا رکھے تھے جو غلط نظریات پھیلا کر لوگوں میں فتنہ انگیزی کر رہے تھے۔ ان میں ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو خلیفہ بنانے والا ظالم ہے۔ نیز یہ شخص لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑا ہونے پر بھی ابھارتا تھا کہ حقدار کے ہوتے ہوئے وہ خلافت پر فائز ہیں۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے کارندوں کی فتنہ انگیزی کی یہ خبریں مدینہ منورہ پہنچ رہی تھیں۔ نیز یہ خبریں بھی موصول ہو رہی تھیں کہ مختلف علاقوں میں فتنہ پھیل رہا

ہے، عوام اپنے امراء اور گورنروں پر جارحانہ حملے کر رہے ہیں۔ ان حالات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مختلف علاقوں میں تحقیقاتی کمیٹیاں روانہ کیں تاکہ وہاں کی صحیح صورتحال کا جائزہ لے کر مدینہ منورہ میں آپ رضی اللہ عنہ کو رپورٹ پیش کریں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو مصر بھیجا اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو شام روانہ کیا۔ ان کے علاوہ دیگر لوگوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا۔ سارے لوگ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے پہلے واپس آگئے۔ واپس آکر انہوں نے یہ خبر دی کہ اے لوگو! ہم نے (ان علاقوں میں) کوئی ناپسندیدہ اور قابلِ گرفت چیز نہیں دیکھی اور نہ ہی وہاں کے امراء (گورنر) اور عوام نے کوئی قابلِ گرفت چیز محسوس کی ہے (یعنی وہاں کے لوگوں کو کسی ناخوشگوار واقعہ اور معاندین کی فتنہ انگیزی کا علم نہیں ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی کے) ان اراکین نے یہی صورتحال بتائی کہ ان علاقوں میں مسلمانوں کو اپنے معاملات کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ (ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ) وہاں کے امراء (گورنر) لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھے ہوئے ہیں اور ان کی خبرگیری بھی کرتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی تاخیر سے لوگوں کو اندیشہ ہوا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اچانک ایک دن حضرت عبد اللہ ابن سعد بن ابی سرح کا خط آیا جس میں انہوں نے یہ خبر دی کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو مصر میں ایک گروہ نے اپنی طرف مائل کر لیا ہے اور وہاں کے لوگ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ہاں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں میں عبد اللہ بن سوداء، خالد بن ملجم، سودان بن حمران اور کنانہ بن بشر (سرفہرست) ہیں۔

اعتراض:

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جیسے

صاحب فضل و کمال صحابی بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر لگائے جانے والے الزامات کو درست سمجھتے تھے۔

جواب:

یہ روایت غیر معتبر ہے؛ اس روایت کا راوی ”یزید فقہی“ مجہول العین ہے۔ لہذا اس مجہول راوی کی وجہ سے یہ روایت معتبر نہیں ہوگی۔ اگر راوی مجہول العین یا مجہول الحال ہو تو محدثین کرام رحمہ اللہ کے نزدیک ایسی روایت معتبر نہیں ہوتی۔

1: امام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد خطیب بغدادی (ت 463ھ) فرماتے ہیں:

وَلَا يُقْبَلُ خَبَرٌ مِّنْ جُهْلِكَ عَيْنُهُ وَصِفَتُهُ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ عَدَالَتِهِ.

الکفایۃ فی علم الروایۃ: ص 372 باب القول فی الرجل یروی الحدیث ترجمہ: مجہول العین (جس سے روایت کرنے والا راوی صرف ایک ہو) اور مجہول الوصف راوی (جس کی کسی نے توثیق نہ کی ہو) کی روایت قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس صورت میں اس راوی کی عدالت پہچاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔

2: علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ (ت 676ھ) لکھتے ہیں:

رَوَايَةُ فَجْهُولِ الْعَدَالَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لَا تُقْبَلُ عِنْدَ الْجَبَاهِيَّةِ.

تقریب النووی: ج 1 ص 268 صفحہ من قبل روایتہ وما يتعلق بہ

ترجمہ: مجہول العدالت خواہ ظاہر ہو یا باطناً، اس کی روایت جمہور کے نزدیک قبول نہیں ہوگی۔

اعتراض نمبر 11: محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کے قتل کرنے کا

خط لکھنا

مورخ حسین بن محمد بن الحسن الدیلمی بکری رحمہ اللہ (ت 966ھ) لکھتے ہیں:

قَالُوا: إِنَّهُ كَانَ غَادِرًا خَالِفًا لِعَدِيهِ فَإِنَّ أَهْلَ مِصْرَ شَكُوا إِلَيْهِ عَامِلَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ فَوَعَدَهُمْ أَنْ يُؤْتِيَ عَلَيْهِمْ مَنْ يَرْضَوْنَ فَاخْتَارُوا مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَوَلَّاهُ عَلَيْهِمْ وَتَوَجَّهُوا بِهِ مَعَهُمْ إِلَى مِصْرَ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بَنِي أَبِي سَرْحٍ بِمِصْرَ يَأْمُرُهُ أَنْ يَأْخُذَ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَيَقْطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَهَذَا كَانَ سَبَبَ رُجُوعِ أَهْلِ مِصْرَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى الْمَدِينَةِ وَحَصَارِهِمْ عُثْمَانَ وَقَتْلِهِ.

تاریخ النخیس: ج 2 ص 274 الطعن التاسع عشر

ترجمہ: لوگ کہنے لگے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دھوکہ دیا اور اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی کیونکہ اہل مصر ان کے سامنے عبد اللہ بن ابی سرح کی شکایت لے کر آئے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ ان پر اس شخص کو گورز بنائیں گے جسے وہ پسند کریں گے۔ چنانچہ لوگوں نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی تجویز دی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہی کو والی مصر بنا دیا۔ لہذا لوگ ان کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے مصر کے عامل ابن ابی سرح کو خط لکھا۔ اس خط میں اس عامل کو حکم دیا کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما (جب آپ کے پاس پہنچ جائیں ان) کو گرفتار کر لو اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالو۔ تو یہی خط اہل مصر کا اور دوسرے لوگوں کا مدینہ منورہ کی طرف دوبارہ لوٹنے کا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کرنے کا اور قتل کرنے کا سبب بنا۔

اعتراض:

مذکورہ بالا عبارت کی روشنی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کو قتل کرنے کے لئے خط لکھا۔

جواب:

یہ اعتراض چند وجوہ سے بے بنیاد ہے:

- 1: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب یہ خط جعلی تھا۔
- 2: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ خط نہیں لکھوایا تھا۔
- 3: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کا علم بھی نہیں تھا۔
- 4: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس خط کی تردید فرمادی تھی۔

اس حوالے سے چند عبارات پیش کی جاتی ہیں:

[1]: حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب ابی حفص عمر بن کثیر دمشقی شافعی رحمہ اللہ (ت 774ھ) لکھتے ہیں:

وَهَذَا كَذِبٌ عَلَى الصَّحَابَةِ، وَإِنَّمَا كُتِبَتْ كُتُبٌ مَرْوَرَةٌ عَلَيْهِمْ، كَمَا كَتَبُوا مِنْ جِهَةِ عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ إِلَى الْخَوَارِجِ كُتُبًا مَرْوَرَةً عَلَيْهِمْ أَنْكَرُوهَا، وَهَكَذَا رَوَّاهُ هَذَا الْكِتَابُ عَلَى عُثْمَانَ أَيْضًا، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَيْضًا.

البدایہ والنہایہ لابن کثیر: ج 4 ص 187 ذکر مجی الاحزاب الی عثمان للمرة الثانية من مصر

ترجمہ: یہ صحابہ کرام پر جھوٹا الزام ہے۔ اس لیے کہ جو خطوط لکھے گئے تھے وہ سب جعلی تھے جیسا کہ حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضوان اللہ علیہم کی طرف منسوب خطوط کہ انہوں نے خوارج کو لکھے تھے، جھوٹے ہیں جس کا انہوں نے بعد میں انکار بھی کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف بھی اس جھوٹے خط

کی نسبت کی گئی ہے جب کہ انہوں نے نہ اس خط کا حکم دیا تھا اور نہ ہی وہ اس خط کو جانتے تھے۔

[2]: مورخ حسین بن محمد بن الحسن الدیلمی رحمہ اللہ (ت 966ھ) لکھتے ہیں:
 أَمَّا قَوْلُهُمْ أَنَّهُ كَانَ غَادِرًا إِلَى آخِرِ مَا قَرَّرُوهُ فَتَقُولُ أَمَّا الْكِتَابُ
 الَّذِي كَانَ إِلَى عَامِلِهِ بِمَضْرٍ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ عِنْدِهِ وَقَدْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ لَهُمْ وَقَدْ
 تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ فِي مَقْتَلِهِ مُسْتَوْفًى وَقَدْ ذَكَرْنَا مَنْ يَتَّبِعُهُم بِالْتَّزْوِيرِ عَلَيْهِ وَقَدْ
 تَحَقَّقُوا ذَلِكَ وَإِنَّمَا غَلَبَ الْهَوَى - أَعَادَنَا اللَّهُ مِنْهُ - عَلَى الْعُقُولِ حَتَّى ضَلَّتْ فِيهِ
 فِتْنَةٌ فَقَتَلَتْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

تاریخ الخمیس: ج 2 ص 1274 الجواب عن الطعن التاسع عشر

ترجمہ: لوگوں کا یہ کہنا کہ ”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غداری کی ہے“ (یہ محض آپ رضی اللہ عنہ پر الزام ہے) اس لیے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ وہ خط جو عامل کی طرف لکھا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نہیں تھا اور اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے سامنے قسم بھی اٹھائی تھی۔ اس کا ذکر آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے تذکرہ میں پہلے ہو چکا ہے۔ نیز ہم پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کر بھی چکے ہیں جو آپ رضی اللہ عنہ پر جھوٹا الزام لگاتے تھے حالانکہ ان لوگوں کو اس بات کا بخوبی علم تھا (کہ یہ کام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے) اس کے باوجود ان (لوگوں کی) عقلوں پر خواہشات غالب آ گئیں اور یہ (عقلیں) گمراہی کا شکار ہو گئیں۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا اقدام کر گزرے۔

اعتراض نمبر 12: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضرت عثمان

رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم دینا

امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الآملی الطبری رحمہ اللہ (ت 310ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَهَا انْتَهَتْ إِلَى سِرْفٍ رَاجِعَةً فِي طَرِيقِهَا إِلَى مَكَّةَ، لَقِيَهَا عَبْدُ بَنٍ أُمِّ كِلَابٍ - وَهُوَ عَبْدُ بَنٍ أَبِي سَلَمَةَ، يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ - فَقَالَتْ لَهُ: مَهْيِمٌ؟ قَالَ: قَتَلُوا عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَمَكَّثُوا ثَمَانِيًا، قَالَتْ: ثُمَّ صَنَعُوا مَاذَا؟ قَالَ: أَخَذَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِالْأَجْتِمَاعِ، فَجَازَتْ بِهِمُ الْأُمُورَ إِلَى خَيْرِ مُجَازٍ، اجْتَمَعُوا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَيْتَ أَنَّ هَذِهِ انْطَبَقَتْ عَلَى هَذِهِ، إِنْ تَمَّ الْأَمْرُ لِصَاحِبِكَ! رُدُّونِي رُدُّونِي، فَاِنْصَرَفَتْ إِلَى مَكَّةَ وَهِيَ تَقُولُ: قُتِلَ وَاللَّهِ عُثْمَانُ مَظْلُومًا، وَاللَّهُ لَا ظُلْمَ لِي بِدَمِهِ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ أُمِّ كِلَابٍ: وَلِمَ؟ فَوَاللَّهِ إِنْ أَوَّلَ مَنْ أَمَالَ حَرْفَهُ لَأَنْتِ! وَلَقَدْ كُنْتُ تَقُولِينَ: اقْتُلُوا نَعْمَلًا فَقَدْ كَفَرًا، قَالَتْ: إِنَّهُمْ اسْتَتَابُوهُ ثُمَّ قَتَلُوهُ، وَقَدْ قُلْتُ وَقَالُوا، وَقَوْلِي الْأَخِيرُ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِي الْأَوَّلِ.

تاریخ الطبری: ج 4 ص 458، 459

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب مکہ مکرمہ سے واپس لوٹتے ہوئے راستے میں مقام ”سرف“ پر پہنچیں تو انہیں عبد بن ام کلاب ملے۔ عبد کے والد کا نام ابو سلمہ تھا لیکن وہ اپنی ماں کی طرف منسوب (ہو کر عبد بن ام کلاب کہلاتے) تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے (انہیں دیکھا تو) فرمایا: کیا ہوا؟ (کہ اس وقت یہاں ہو) عبد بن ام کلاب نے کہا کہ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے اور آٹھ روز

تک اسی طرح (بغیر خلیفہ کے) رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ عبد بن ام کلاب نے کہا: اہل مدینہ (باہمی مشورہ کے لئے) جمع ہوئے اور ان کا مشورہ ایک کارِ خیر کو پہنچا کہ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے پر اتفاق کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (یہ سن کر) فرمانے لگیں: اگر تیرے ساتھی کو ہی خلافت ملنی ہوتی تو اے کاش! یہ آسمان و زمین ایک دوسرے سے مل جاتے (یعنی تباہ ہو جاتے)۔ مجھے (مکہ مکرمہ میں) واپس لے جاؤ! مجھے واپس لے جاؤ۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا (مقامِ سرف سے) مکہ مکرمہ واپس لوٹ آئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا (راستے میں) یہ فرما رہی تھیں کہ قسم بخدا! عثمان مظلوم حالت میں قتل کیے گئے ہیں، اللہ کی قسم! میں ان کے خون کا مطالبہ کروں گی۔ عبد بن ام کلاب نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا: ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اللہ کی قسم! آپ ہی نے سب سے پہلے (حضرت علی رضی اللہ عنہ سے) انحراف کیا ہے۔ آپ ہی تو یہ کہا کرتی تھیں کہ اس نعل کو قتل کر دو، یہ کافر ہو چکا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں: ان لوگوں نے عثمان سے پہلے توبہ کروائی، پھر انہیں قتل کر دیا۔ میں نے جو کہا تھا وہ اوروں نے بھی کہا تھا۔ اب میرا یہ (آخری) قول پہلے قول سے بہتر ہے۔ (یعنی میں نے پہلے قتل کا حکم دیا تھا لیکن اب میں ان کے خون کا مطالبہ کروں گی۔)

(العیاذ باللہ)

فائدہ: ”نعل“ ایک یہودی کا نام ہے جس کی لمبی ڈاڑھی تھی۔ یہ شخص مدینہ منورہ میں رہتا تھا۔ اس روایت میں اسی یہودی سے تشبیہ دینا مذکور ہے۔

اعتراض:

اس روایت کے پیشِ نظر اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم دیا تھا۔

جواب نمبر 1:

اس روایت کے راویوں میں مجہول، متروک، کذاب، غالی رافضی راوی ہیں۔
تصریحات ملاحظہ ہوں:

[1]: الحسین بن نصر بن مزاحم العطار المنقری

یہ شخص مجہول الحال ہے۔ کتب جرح و تعدیل میں اس کی تعدیل و توثیق اور
اس پر کوئی تبصرہ ہمیں نہیں مل سکا۔

[2]: نصر بن مزاحم العطار المنقری

♦ امام صالح بن محمد کہتے ہیں:

نَصَرُ بْنُ مُزَاهِمٍ رَوَى عَنِ الضُّعْفَاءِ أَحَادِيثَ مَنَاكِيَرًا.

تاریخ بغداد للخطیب: ج 11 ص 201 ترجمہ نصر بن مزاحم

کہ نصر بن مزاحم ضعیف راویوں سے منکر روایات بیان کرتا ہے۔

♦ امام ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی فرماتے ہیں:

نَصَرُ بْنُ مُزَاهِمٍ الْعَطَّارُ كَانَ زَائِعًا عَنِ الْحَقِّ مَائِلًا. قُلْتُ: أَرَادَ بِذَلِكَ
غُلُوبًا فِي الرِّفْضِ.

تاریخ بغداد للخطیب: ج 11 ص 201 ترجمہ نصر بن مزاحم

کہ نصر بن مزاحم العطار کج روی کا شکار تھا اور حق سے کوسوں دور تھا۔ میں
(خطیب بغدادی) کہتا ہوں کہ امام جوزجانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص غالی رافضی تھا۔

♦ امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں:

وَإِذَا حَدَّثَ، مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ.

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي: ج 8 ص 534 ترجمہ نصر بن مزاحم

کہ یہ شخص غلط احادیث بیان کرنے والا ہے۔ متروک الحدیث ہے۔ اس کی

حدیث نہ لکھی جائے۔

♦ امام ابو خثیمہ کہتے ہیں: كَانَ كَذَّابًا.

الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي: ج 3 ص 160 ترجمہ نصر بن مزاحم

کہ یہ شخص جھوٹا تھا۔

♦ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں: لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ.

الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي: ج 3 ص 160 ترجمہ نصر بن مزاحم

کہ اس کی بیان کردہ احادیث ناقابل اعتبار ہیں۔

♦ امام دارقطنی فرماتے ہیں: ضَعِيفٌ.

کہ یہ ضعیف تھا۔

الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي: ج 3 ص 160 ترجمہ نصر بن مزاحم

♦ علامہ شمس الدین الذہبی فرماتے ہیں: زَاْفِضِيٌّ جَلَدٌ، تَرَكُوهُ.

ميزان الاعتدال للذہبی: ج 5 ص 17 ترجمہ نصر بن مزاحم

کہ یہ پکارا فاضی تھا، (اس لیے) محدثین نے اس کو ترک کر دیا ہے۔

[3]: اس روایت کے راوی اسد بن عبد اللہ نے جن راویوں سے روایت لی ہے ان کا نام

ذکر نہیں کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ روایت بھی مجہول ہیں۔

لہذا یہ روایت موضوع و باطل ہے، حجت نہیں ہے۔

جواب نمبر 2:

محققین حضرات نے بھی اس روایت کو جھوٹ اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔

چنانچہ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی الخفی رحمہ اللہ (ت 1270ھ) لکھتے ہیں:

وَمَا زَعَمَتْهُ الشَّيْخَةُ مِنْ أَنَّهَا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - كَانَتْ هِيَ الَّتِي

تَحَرَّضَ النَّاسُ عَلَى قَتْلِ عُثْمَانَ وَتَقُولُ: أَقْتُلُوا نَعْتَلًا فَقَدْ جَرَّ نَشِيْهُهُ بِبَهْوَ دِيٍّ

يُدْعَى نَعْتًا... كِذْبٌ لَا أَصْلَ لَهُ.

تفسیر روح المعانی: ج 22 ص 11 تحت الآیہ ﴿وَقُرْآنَ فِی بُیُوتِکُمْ﴾

ترجمہ: شیعہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہی لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل پر ابھارا اور آپ - رضی اللہ عنہا - حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی ”نعلش“ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہا کرتی تھیں کہ اس نعلش کو قتل کر دو، یہ فاجر ہو چکا ہے۔... یہ سارا قصہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

جواب نمبر 3:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم قطعاً نہیں دیا تھا۔ اس پر کئی شواہد ہیں۔

[شاہد نمبر 1]: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتی تھیں۔

چنانچہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ الترمذی رحمہ اللہ (ت 279ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا عُمَانُ! إِنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يُقَبِّضُكَ فَمِصًّا فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ."

سنن الترمذی: رقم الحدیث 3705

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا: اے عثمان! امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائیں گے (مراد: خلافت سے نوازیں گے)، لوگ اگر اسے اتروانا چاہیں تو آپ نے ان کی وجہ سے اتارنی نہیں ہے۔

امام ابو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن ابی بکر بن ابراہیم العراقی رحمہ اللہ (ت 806ھ) روایت نقل فرماتے ہیں:

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَقَدْ قَتَلُوهُ وَإِنَّهُ لَيَنْ أَوْصِلَهُمُ لِلرَّحِمِ وَأَتَقَاهُمْ لِرَبِّهِ.

طرح التتریب فی شرح التفریب: ج 1 ص 82 ترجمہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا حالانکہ آپ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔

[شاہد نمبر 2]: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی طرف منسوب جعلی خطوط کی نفی کرتی تھیں۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ عنہا کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ عنہا نے اپنی طرف منسوب جھوٹے خطوط کی نفی فرمادی۔

امام ابو عبد اللہ محمد ابن سعد ابن منیع البصری رحمہ اللہ (ت 430ھ) لکھتے ہیں:

عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حِينَ قُتِلَ عُثْمَانُ: تَرَكْتُمُوهُ كَالثَّوْبِ النَّعِيجِيِّ مِنَ الدَّنَاسِ ثُمَّ قَرَّبْتُمُوهُ تَذْبَحُونَهُ كَمَا يُذَبِّحُ الْكَبْشُ هَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ هَذَا، فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ: هَذَا عَمَلِكِ، أَنْتِ كَتَبْتِ إِلَى النَّاسِ تَأْمُرِينَهِمْ بِالْخُرُوجِ إِلَيْهِ قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا! وَاللَّيْلَى آمَنَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ وَكَفَرُ بِهِ الْكَافِرُونَ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِمْ بِسُوءَاءٍ فِي بَيْضَاءٍ حَتَّى جَلَسْتُ فَجَلَسِي هَذَا. قَالَ الْأَعْمَشُ: فَكَانُوا يَزَوْنُ أَنَّهُ كُتِبَ عَلَى لِسَانِهَا.

الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ج 3 ص 60 ترجمہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت مسروق رحمہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے (اظہارِ افسوس کرتے ہوئے) قاتلین کو (فرمایا: تم لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو میل کچیل سے پاک کپڑے کی طرح کر

دیا، پھر جب تم ان کے قریب ہوئے تو انہیں مینڈھے کی طرح ذبح کر ڈالا۔ یہ اس سے پہلے کیوں نہ ہوا؟ اس کے بعد مسروق رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں عرض کیا (لوگ کہتے ہیں) کہ یہ سب کچھ آپ کے کہنے پر ہوا ہے، آپ نے ہی لوگوں کو یہ لکھا اور حکم دیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں ارشاد فرمایا: نہیں، اس ذات کی قسم! جس پر مومن ایمان لائے اور کفار نے اس ذات کا انکار کیا میں نے اپنی اس مجلس میں بیٹھنے تک ان لوگوں کو سفید کاغذ پر سیاہ نقطہ لگا کر بھی نہیں دیا۔ اس روایت کے راوی اعمش کہتے ہیں کہ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ تردید اس لیے کی کیونکہ) لوگوں کا گمان تھا کہ یہ سب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہنے پر لکھا گیا ہے۔

[شاہد نمبر 3]: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قاتلین عثمان پر لعنت بھیجتی تھیں۔

1: امام احمد بن حنبل بغدادی رحمہ اللہ (ت 241ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْيَشْكُرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أُحْمَى، تُحَدِّثُ أَنَّ أُمَّهَا، انْطَلَقَتْ إِلَى الْبَيْتِ حَاجَةً وَالْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ لَهْ بَابَانِ قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَيْتُ طَوَافِي دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ بَعْضَ بَنِيكَ بَعَثَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا فِي عُثْمَانَ، فَمَا تَقُولِينَ فِيهِ؟ قَالَتْ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَهُ، لَا أَحْسِبُهَا إِلَّا قَالَتْ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْنِدٌ فُخِذَ إِلَى عُثْمَانَ، وَإِنِّي لَأَمْسَحُ الْعَرَقَ عَنْ جَبِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ الْوُحْيَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ، وَلَقَدْ رَوَّجَهُ ابْنَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى ابْنِ الْأَخْزَى، وَإِنَّهُ لَيَقُولُ: "اُكْتُبْ عُثْمَانَ" قَالَتْ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيُنْزَلَ عَبْدًا مِنْ نَبِيِّهِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِلَّا عَبْدًا عَلَيْهِ كَرِيمًا.

مسند احمد: ج 18 ص 169 رقم الحدیث 26125

ترجمہ: حضرت عمر بن ابراہیم یشکری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے سنا، وہ بیان کرتی ہیں کہ ان کی والدہ بیان کرتی تھیں کہ وہ بیت اللہ میں کسی ضرورت سے گئیں اور اس وقت بیت اللہ کے دو دروازے تھے، کہتی ہیں کہ جب میں نے طواف مکمل کر لیا تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی اور اس سے عرض کی: اے ام المؤمنین! آپ کا ایک بیٹا آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور (یہ کہہ رہا ہے کہ) لوگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: جو ان پر لعنت کرے اللہ اس پر لعنت کرے۔ یہ جملہ آپ نے تین بار ارشاد فرمایا۔ پھر فرمانے لگیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگائے ہوئے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ صاف کر رہی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کروایا۔ (جب وحی نازل ہوتی تو) آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوتے: اے عثمان! لکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاں اسی شخص کو قدر و منزلت سے نوازتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں معزز ہو۔

2: امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر اللخمی الشامی الطبرانی رحمہ اللہ (ت 360ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ أَبُو خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ الْحَجَّيُّ ، حَدَّثَنَا حَزْمٌ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَلِيقَ بْنَ
خَشَّافٍ يَقُولُ : وَقَدْ نَأَى إِلَى الْمَدِينَةِ لَنَنْظُرَ فِيْمَا قُبِلَ عُثْمَانُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَرَّ مَنَا
بَعْضُ إِلَى عَلِيٍّ ، وَبَعْضُ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَبَعْضُ إِلَى أُمَّهَاتِ

الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهَا
فَرَدَّتِ السَّلَامَ، فَقَالَتْ: وَمَنِ الرَّجُلُ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ. فَقَالَتْ: مِنْ
أَيِّ أَهْلِ الْبَصْرَةِ؟ قُلْتُ: مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَتْ: مِنْ أَيِّ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟
قُلْتُ: مِنْ بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَتْ: أَمِنْ أَهْلِ فُلَانٍ؟ فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ
الْمُؤْمِنِينَ! فِيمَا قُتِلَ عُثْمَانُ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قَالَتْ: قُتِلَ وَاللَّهِ
مَظْلُومًا، لَعَنَ اللَّهُ قَتَلَتَهُ.

المعجم الكبير للطبرانی: ج 1 ص 51 رقم الحديث 131

ترجمہ: ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں نے طلق بن خشف سے سنا، انہوں نے بتایا کہ
(حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد) ہم مدینہ طیبہ میں آئے تاکہ معلوم
کریں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کیا گیا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو ہم میں
سے بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، بعض حضرت حسین بن علی
رضی اللہ عنہما کی خدمت میں اور بعض امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی خدمت میں
حاضر ہوئے۔ امہات المؤمنین سے ہوتے ہوئے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے سلام کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سلام
کا جواب دیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا: اہل بصرہ سے، انہوں نے کہا:
اہل بصرہ میں سے کس قبیلہ سے ہو؟ میں نے کہا: بکر بن وائل سے۔ انہوں نے کہا: بکر
بن وائل کے کس گھرانے سے ہو؟ میں نے کہا: بنی قیس بن ثعلبہ سے۔ فرمانے لگیں:
اچھا تم فلاں سے ہو۔ پھر میں نے سوال کیا: اے ام المؤمنین! عثمان بن عفان رضی اللہ
عنہ کس بناء پر شہید کیے گئے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ
کی قسم! عثمان رضی اللہ عنہ مظلوماً قتل کیے گئے، ان کے قاتلین پر اللہ تعالیٰ کی لعنت
ہو۔

اعتراض نمبر 13: قرآن مجید کے نسخوں کو جلانے کا

حکم دینا

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ (ت 256ھ) روایت نقل

کرتے ہیں:

إِنَّ حَدِيفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يُعَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ إِدْمِينِيَّةَ وَأَذْرَبِجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَقْرَعَ حَدِيفَةَ اخْتِلَافَهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ فَقَالَ حَدِيفَةُ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَدْرِكَ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسُخَهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكَ فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنُ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَأَكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ، فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفْقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ.

صحیح البخاری: رقم الحدیث 4987

ترجمہ: حضرت حدیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آرمینہ اور آذربائیجان کی فتح کے سلسلے میں شام کے غازیوں کے لیے جنگی و عسکری تیاریوں میں

مصروف تھے تاکہ وہ اہل عراق کو ساتھ لے کر جنگ کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے اختلاف قراءات کے سلسلے میں بہت پریشان تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے (مدینہ آکر) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کی: اے امیر المومنین! اس سے پہلے کہ یہ امت بھی یہود و نصاریٰ کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کرے آپ اس معاملے کو سنبھالیے! (اور سارا واقعہ عرض کیا کہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے یوں کہہ رہے ہیں کہ میری قراءت آپ کی قراءت سے بہتر ہے) چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کی خدمت میں اپنا قاصد بھیجا کہ وہ صحائف (جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سرکاری طور پر جمع کرائے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے پاس ہیں) ہمیں دے دیجیے، ہم انہیں دیگر مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے وہ مصاحف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبد اللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ ان صحیفوں کو مصاحف میں نقل کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تینوں قریشیوں کو فرمایا کہ جب آپ کا حضرت زید بن ثابت کے ساتھ کسی لفظ میں (قراءت مع رسم الخط کا) اختلاف ہو جائے تو اسے قریش کی لغت (مع رسم الخط) کے مطابق لکھنا۔ کیونکہ قرآن کریم (اولا) قریش کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ چنانچہ ان حضرات نے ایسا ہی کیا۔ جب تمام صحائف کو مختلف مصاحف میں نقل کر لیا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ سارے صحیفے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو واپس کر دیے اور ریاست مدینہ کے ماتحت سلطنتوں میں اس کا ایک ایک نسخہ بھیج دیا اور حکم دیا کہ اس کے علاوہ اگر قرآن کریم کسی صحیفے میں یا مصحف میں لکھا ہو تو اسے جلا دیا

جائے۔

اعتراض:

اس حدیث کی بنیاد پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے نسخوں کو جلانے کا حکم دیا تھا۔

جواب نمبر 1:

لفظ ”حرق“ کا صرف ایک معنی ”جلانا“ ہی نہیں بلکہ اس کا ایک معنی ”کھرچنا اور چھیلنا“ بھی ہے۔ یہاں ”حرق“ کا پہلا معنی (جلانا) مراد نہیں ہے بلکہ دوسرا معنی (کھرچنا، چھیلنا) مراد ہے۔

اب اس روایت کے الفاظ ”أَنَّ يُحْرِقَ“ کا مطلب یہ ہو گا کہ ہڈیوں پر لکھے ہوئے کو کھرچ دیا جائے اور ٹہنیوں پر لکھے ہوئے کو چھیل دیا جائے۔

یہ معنی اہل لغت سے ثابت ہے۔ چند تصریحات ملاحظہ ہوں:

1: امام ابوالفضل محمد بن مکرم بن علی جمال الدین ابن منظور الانصاری الافریقی رحمہ اللہ (ت 711ھ) لکھتے ہیں:

حَرْقُهُ يَحْرِقُهُ أَيْ سَحَقَهُ حَتَّى سُمِعَ لَهُ صَوْتُ يَفٍّ.

لسان العرب: ج 10 ص 44

ترجمہ: حَرْقُهُ يَحْرِقُهُ کا معنی ہے: اس طرح کھرچنا کہ اس کی آواز سنائی دے۔ یہاں دوسرا معنی مراد ہے۔

2: علامہ سید مرتضیٰ حسین بلگرامی زبیدی مصری رحمہ اللہ (ت 1205ھ) فرماتے ہیں:

حَرْقُهُ يَحْرِقُهُ حَرْقًا حَاكَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ.

تاج العروس من جواهر القاموس: ج 6 ص 211

ترجمہ: حَرَقَهُ يَحْرِقُهُ حَرْقًا كَمَا مَعْنَى هِيَ: ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کھرچنا۔
شمس الائمہ امام محمد بن احمد بن ابی سہل السرخسی رحمہ اللہ (ت 483ھ)
فرماتے ہیں:

وَالَّذِي يُرْوَى أَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَعَلَ ذَلِكَ بِالْمَصَاحِفِ
الْمُخْتَلِفَةِ حِينَ أَرَادَ جَمْعَ النَّاسِ عَلَى مُصْحَفٍ وَاحِدٍ لَا يَكَاذُ يَصْحُحُ فَالَّذِي ظَهَرَ
مِنْهُ مِنْ تَعْظِيمِ الْحُرْمَةِ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمَدَاوِمَةِ عَلَى تِلَاوَتِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا أَصْلَ لِنَظَرِكَ الْحَدِيثِ.

شرح السیر الکبیر للسرخسی: ج 3 ص 141 باب ما یحمل علیہ الفی

ترجمہ: یہ بات جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کی
جاتی ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کرنا چاہا تھا تو مصاحف مختلفہ جلا
دیے تھے تو یہ روایت صحیح نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کتاب اللہ کی جو تعظیم
و حرمت اور رات دن اس کی تلاوت اور اس پر مداومت منقول ہے وہ اس بات کی
دلیل ہے کہ ان کے مصاحف جلانے کی روایت بالکل بے بنیاد ہے۔

فائدہ نمبر 1: امام سرخسی رحمہ اللہ کے ”قرآن جلانے کی روایت بالکل بے
بنیاد ہے“ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں مذکور لفظ ”حرق“ کا معنی حتمی طور پر
”جلانا“ ہی ہو اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

فائدہ نمبر 2: ”حرق“ سے مراد ”جلانا“ نہیں تھا۔ اس پر بطور تائید کے شمس
الائمہ امام محمد بن احمد بن ابی سہل السرخسی رحمہ اللہ کی عبارت پیش کی گئی ہے۔ وہ اس
طور پر کہ مذکورہ روایت صحیح بخاری کی ہے اور سند بالکل صحیح ہے تو ہم امام سرخسی رحمہ
اللہ کے اس فیصلے کی روشنی میں صحیح بخاری کی روایت میں حرق کے معنی کھرچنے اور
رگڑنے کے ہی کریں گے نہ کہ جلانے کے۔

جواب نمبر 2:

اکثر روایات میں ”خرق“ کا لفظ آتا ہے جس کا معنی ہے ”پھاڑنا، چاک کرنا“ چنانچہ علامہ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی الشافعی رحمہ اللہ (ت 852ھ) فرماتے ہیں:

فِي رَوَايَةِ الْأَكْثَرِ أَنَّ يُخْرَقَ بِالتَّحَاءِ الْمُعْجَمَةُ وَالْمُعْجَمَةُ أَثْبَتٌ.

فتح الباری شرح صحیح البخاری: ج 9 ص 20 باب جمع القرآن

ترجمہ: اکثر روایات میں ”یخرق“ کے الفاظ ہیں، رخ کے ساتھ۔ یہ بات زیادہ رائج ہے۔

اور ”خرق“ کا معنی ”پھاڑنا، چاک کرنا“ اہل لغت سے ثابت ہے۔ چند تصریحات ملاحظہ ہوں:

1: علامہ سید مرتضیٰ حسین بکرامی زبیدی مصری رحمہ اللہ (ت 1205ھ) لکھتے ہیں:

خَرَقَهُ: يَخْرِقُهُ وَيَخْرِقُهُ: جَابَهُ وَمَزَّقَهُ.

تاج العروس من جواهر القاموس: تحت خرق

ترجمہ: خَرَقَهُ: يَخْرِقُهُ کا معنی ہے پھاڑنا، چاک کرنا۔

2: علامہ وحید الزمان قاسمی کیرانوی رحمہ اللہ (ت 1416ھ) لکھتے ہیں:

خَرَقَ: پھاڑنا، سوراخ کرنا۔

القاموس الوجید: ص 430

اشکال:

”خرق“ کا معنی ”پھاڑنا، چاک کرنا“ بھی کر لیا جائے تب بھی سوال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھا ہوا قرآن اس طرح کیوں ضائع کیا تھا؟

جواب:

لکھا ہوا قرآن ایسا تھا جس کی وجہ سے امت کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ تھا، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔

حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب ابی حفص عمر بن کثیر دمشقی شافعی رحمہ اللہ (ت 774ھ) لکھتے ہیں:

وَأَمَّا الْمَصَاحِفُ فَأَيُّمَا حَرَقَ مَا وَقَعَ فِيهِ اخْتِلَافٌ، وَأَبْقَى لَهُمُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

البدایۃ والنہایۃ لابن کثیر: ج 4 ص 183 ثم دخلت سنة خمس وعلا شين ترجمہ: (حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) کہ (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے) ان مصاحف کے الفاظ کو جن میں اختلاف تھا، جلا دیا تھا اور جو اتفاقی تھے انہیں باقی رکھا (تا کہ بعد کے لوگ اختلاف سے بچ سکیں)۔

جواب نمبر 3:

اگر یہ عمل قابل اعتراض ہے تو یہ اعتراض صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر نہیں بلکہ یہ اعتراض تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی بنتا ہے (معاذ اللہ) کیونکہ انہوں نے بھی اس عمل کی تائید کی تھی۔

چنانچہ حافظ ابو القاسم علی بن ابی محمد الحسن بن ہبۃ اللہ رحمہ اللہ المعروف ابن عساکر (ت 571ھ) لکھتے ہیں:

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّا كُنَّا وَالْغُلُو فِي عُثْمَانَ، يَقُولُونَ: حَرَقَ الْمَصَاحِفَ. وَاللَّهُ مَا حَرَقَهَا إِلَّا عَنْ مَلَأٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ وَلِيْتُ مِثْلَ مَا وَلِيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ.

تاریخ دمشق: ج 39 ص 245 ترجمہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے (لوگوں کے مجمع میں اعلان) فرمایا کہ اے لوگو! حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق غلو نہ کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے مصاحف جلا دیے تھے۔ اللہ کی قسم! انہوں نے مصاحف جلائے تھے تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جلائے تھے (یعنی یہ کام ہم لوگوں کے مشورہ کے بغیر نہیں کیا) اگر میں اس وقت حاکم ہوتا تو میرا فیصلہ بھی وہی ہوتا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ بن محمد بن یحییٰ بن احمد بن محمد بن بکر اللاندی رحمہ اللہ (ت 741ھ) لکھتے ہیں:

فَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ كَانَ مُنْكَرًا لَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَيْرَهُ لَمَّا صَارَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ فَلَمَّا يُعْزِزُهُ عَلَيْهِ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ مُصِيبًا فِيمَا فَعَلَ.

التمہید والبیان فی مقتل الشہید عثمان: ص 188 ذکر الاسباب الی نقوہا علی عثمان والجواب عنہا

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ اس موقف کو تبدیل کر دیتے (یعنی اسے غلط قرار دیتے) لیکن آپ نے اسے تبدیل نہیں کیا (بلکہ تائید کی کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو یہی کام سرانجام دیتا)۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اقدام درست تھا۔

جواب نمبر 4:

خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قبول کیا، اس لیے یہ مسئلہ اجماعی ہوا۔ چنانچہ اس پر اعتماد کیا جائے۔

1: علامہ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی الشافعی رحمہ

اللہ (ت 852ھ) فرماتے ہیں:

حِينَ حَرَقَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِفَ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ - أَوْ قَالَ - لَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَحَدٌ.

فتح الباری شرح صحیح البخاری: ج 9 ص 21 باب جمع القرآن ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مصاحف کو جلا یا تو سب کو یہ عمل درست معلوم ہوا۔ یا (راوی کہتے ہیں) کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا (گویا اس عمل پر اجماع ہو گیا)

2: امام ابو عمر یوسف بن عبد اللہ ابن عبد البر القرطبی المالکی رحمہ اللہ (ت 463ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مَا فِي مَصْحَفِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَهُوَ الَّذِي بِأَيْدِي الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ حَيْثُ كَانُوا هُوَ الْقُرْآنُ الْمَحْفُوظُ الَّذِي لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَجَاوَزَهُ وَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ لِلْمُسْلِمِ إِلَّا بِمَا فِيهِ.

التمہید لابن عبد البر: ج 2 ص 405 حدیث واحد وعشرون لزيد بن اسلم ترجمہ: تمام علماء کا اجماع ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جمع کردہ مصحف جو آج دنیا بھر میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے وہ جہاں کہیں کے بھی ہوں، وہی قرآن محفوظ ہے۔ اب کسی شخص کے لیے یہ بات روا نہیں کہ اس سے تجاوز کرے۔ نیز مسلمانوں کی نماز انہی آیات سے ہو سکتی ہے جو اس میں موجود ہیں۔

اعتراض نمبر 14: حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے

قصاص نہ لینا

حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب ابی حفص عمر بن کثیر دمشقی شافعی رحمہ اللہ (ت 774ھ) نقل کرتے ہیں:

وَأَمَّا أَوَّلُ حُكُومَةٍ حَكَمَ فِيهَا فَقَضِيَّةُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ عَدَا عَلَى ابْنَةِ أَبِي لَوْلَا قَاتِلِ عُمَرَ فَقَتَلَهَا، وَصَرَبَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا يُقَالُ لَهُ: "جُفَيْنَةُ" بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، وَصَرَبَ الْهُزْمَانِ الَّذِي كَانَ صَاحِبَ تَسْتُرٍ فَقَتَلَهُ.

البدایہ والنہایہ لابن کثیر: ج 4 ص 159 خلافت امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے قضیہ کا فیصلہ کیا۔ وہ یہ تھا کہ حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل ابو لولہ مجوسی کی بیٹی کو قتل کیا اور جُفینہ نامی ایک شخص کو تلوار کے وار سے قتل کیا اور مقام ”تُستُر“ کے حاکم ہرمزان کو بھی تلوار مار کر قتل کیا۔

اعتراض:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ کی حکومت میں پہلا قضیہ جو پیش ہوا وہ حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے قصاص لینے کا تھا۔ حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل ابو لولہ مجوسی کے ساتھ قتل میں ملوث دو آدمی جُفینہ اور ہرمزان کو قتل کر دیا تھا اور ابو لولہ کی بیٹی کو بھی مار ڈالا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو قصاصاً قتل کرا دیتے لیکن آپ نے قصاص نہیں لیا۔

جواب:

حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے قصاص کے حوالہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی مختلف آراء تھیں:

- [1]: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ قصاص لیا جائے۔
 [2]: بعض مہاجرین کی رائے تھی کہ قصاص نہ لیا جائے اس لیے کہ کل باپ قتل ہوا اور آج بیٹا قتل ہو جائے۔ اس سے فتنہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔
 [3]: حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ چونکہ یہ قضیہ آپ کے خلیفہ بننے سے پہلے پیش آیا ہے، آپ کے دورِ خلافت میں پیش نہیں آیا اس لیے اسے رہنے دیا جائے۔

- [4]: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ قاتل کی سزا صرف قتل ہی نہیں ہے بلکہ سزا کی دو صورتیں ہیں:

- 1: قصاصاً قتل کیا جائے۔
 2: وراثتاً راضی ہو جائیں تو دیت دی جائے۔
 تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان حالات کے پیش نظر میں وراثتاً کو دیت دینے پر راضی کر لوں گا اور یوں سزا بھی پوری ہو جائے گی اور اس وقت پیدا ہونے والے فتنہ سے بھی امت محفوظ ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی سیاسی حکمت و مصلحت کے پیش نظر وراثتاً کو دیت دے کر بہترین راستہ اختیار کیا۔

- 1: حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن خطیب ابی حفص عمر بن کثیر دمشقی شافعی رحمہ اللہ (ت 774ھ) نقل کرتے ہیں:

فَلَمَّا وَلِيَ عُثْمَانُ، وَجَلَسَ لِلنَّاسِ، كَانَ أَوَّلَ مَا مُتَّحَوِّكَمَ إِلَيْهِ فِي شَأْنِ

عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا مِنْ الْعَدْلِ تَرَكُّهُ. وَأَمَرَ يَقْتُلَهُ وَقَالَ بَعْضُ الْمُهَاجِرِينَ: أَيْقَتُلْ أَبُوهُ بِالْأَمْسِ وَيُقْتَلَ هُوَ الْيَوْمَ! فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَدْ بَرَّكَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ، قَضِيَّةٌ لَمْ تَكُنْ فِي أَيَّامِكَ فَدَعَهَا عَنْكَ. فَوَدَى عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أُولَئِكَ الْقَتْلَى مِنْ مَالِهِ، لِأَنَّ أَمْرَهُمْ إِلَيْهِ، إِذْ لَا وَارِثَ لَهُمْ إِلَّا بَيْتُ الْمَالِ، وَالْإِمَامُ يَرَى الْأَصْلَحَ فِي ذَلِكَ، وَخَلَّى سَبِيلَ عُبَيْدِ اللَّهِ.

البدایۃ والنہایۃ لابن کثیر: ج 4 ص 160 خلافت امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

ترجمہ: جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے اور لوگوں کے معاملات حل کرنے کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلا قضیہ جو آپ کے پاس آیا وہ عبید اللہ کے (قصاص کے) معاملے میں آیا۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کو چھوڑنا عدل و انصاف شمار نہ ہو گا۔ چنانچہ انہوں نے ان کے قتل کا مشورہ دیا۔ بعض مہاجرین نے کہا: کل اس کا باپ قتل ہوا اور آج بیٹا قتل ہو جائے گا؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے امیر المؤمنین! آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس مقدمہ سے بری کیا ہے، کیونکہ یہ واقعہ آپ کے دور حکومت میں نہیں ہوا (بلکہ آپ کے خلیفہ بننے سے پہلے کا ہے، اس لیے) اسے رہنے دیجیے! حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے ان مقتولین کی دیت ادا کی، اس لیے کہ ان (مقتولین) کا معاملہ آپ رضی اللہ عنہ کے سپرد تھا اور بیت المال کے سوا ان کا کوئی وارث نہ تھا اور امام اس بارے میں بہتر سمجھتا ہے (کہ وہ کیا فیصلہ کرے!)۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ کو رہا کر دیا۔

2: مؤرخ حسین بن محمد بن الحسن الدیلمی بکری رحمہ اللہ (ت 966ھ) لکھتے ہیں:

فَلَمَّا رَأَى عُثْمَانُ ذَلِكَ اغْتَتَمَ تَسْكِينِ الْفِتْنَةِ وَقَالَ: أَمْرُهُ إِلَيَّ

سَأَرَضَى أَهْلَ الْهَرَمِ مَزَانَ مِنْهُ"

تاریخ الخمیس: ج 2 ص 274 الجواب عن الطعن السادس عشر

ترجمہ: جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حالات کی کشیدگی اور اضطراب دیکھا تو فتنہ ختم کرنے کا یہ موقع غنیمت سمجھا اور فرمایا: یہ معاملہ میرے ذمہ ہے اور میں اہل ہرمزان کو خود دیت دے کر راضی کر لوں گا۔

3: امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ (ت 1176ھ) لکھتے ہیں:

میگوئیم راضی کرد اولیاء مقتول را بمال و دریں صورت قصاص ساقط شد و فتنہ مضمحل گشت و این یکے از فضائل ذی النورین است۔

قرة العینین فی تفضیل الشیخین از شاہ ولی اللہ دہلوی: ص 274 تحت جوابات مطاعن عثمانی

ترجمہ: میں کہتا ہوں: کہ اولیاء کو دیت دے کر راضی کر دیا تو قصاص ساقط ہو گیا اور اس سے فتنہ ختم ہو گیا، یہ بات تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ہے۔

4: حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ (ت 1239ھ) لکھتے ہیں:

عثمان رضی اللہ عنہ خود ورثہ ہرمزان را باموال خطیرہ راضی ساخت کہ اصلاً باز شکایت نکردند ۔

تحفہ اثنا عشریہ از شاہ عبد العزیز: ص 654، تحت جوابات مطاعن عثمانی، طعن ششم

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود ہرمزان کے ورثاء کو بہت سامال بطور دیت دے کر راضی کر دیا کہ وہ شکایت نہ کر سکیں۔

فائدہ: شرعی ضابطہ بھی یہی ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء دیت پر راضی ہو جائیں تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے۔

اعتراض نمبر 15: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو قتل کرنا

امام ابو العباس احمد بن عبد اللہ بن محمد محب الدین الطبری رحمہ اللہ
(ت 694ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيَّةَ قَالَ: أَتَيْتُ يُونُسَ بْنَ خَبَّابٍ لِأَسْمَعَ مِنْهُ
فَقَالَ: مَنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ. فَقَالَ: مَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِينَ
يُحِبُّونَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ وَقَدْ قَتَلَ ابْنَتَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الرياض النضرة في مناقب العشرة: ج 3 ص 11 الفصل السادس في خصائصه

ترجمہ: اسماعیل بن علیہ کہتے ہیں کہ میں یونس بن خباب کے پاس آیا تاکہ اس سے
کچھ سن سکوں۔ اس نے پوچھا: کہاں سے ہو؟ میں نے کہا: بصرہ سے۔ کہنے لگا: تم اس
شہر سے ہو جس شہر کے لوگ عثمان بن عفان (رضی اللہ عنہ) سے محبت کرتے ہیں
حالانکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو قتل کر دیا تھا۔

اعتراض:

اس روایت کی بنیاد پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی
اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو قتل کر دیا تھا۔

جواب نمبر 1:

روایت بالا میں یہ اعتراض کرنے والا یونس بن خباب الاسیدی رافضی تھا۔
علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ
(ت 748ھ) لکھتے ہیں:

يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ الْأَسَدِيُّ.... وَكَانَ رَافِضِيًّا.
قَالَ لِعَبَادِ بْنِ عَبَّادٍ: عُثْمَانُ قَتَلَ ابْنَتَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَقُلْتُ لَهُ [الْقَائِلُ: عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ]: قَتَلَ وَاحِدَةً فَلِمَ أَنْكَحَهُ
الْأُخْرَى؟

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: كَانَ كَذَّابًا.
قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: رَجُلٌ سُوءٍ ضَعِيفٌ.
قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ: رَجُلٌ سُوءٍ فِيهِ شَيْعِيَّةٌ مُفَرِّطَةٌ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

میزان الاعتدال فی نقد الرجال للذہبی: ج 5 ص 201 ترجمہ یونس بن خباب
ترجمہ: یونس بن خباب الاسیدی رافضی تھا۔

یونس بن خباب الاسیدی نے عباد بن عباد کو کہا کہ عثمان (رضی اللہ عنہ) نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو قتل کر دیا تھا۔ تو (عباد بن عباد کہتے ہیں کہ)
میں نے اسے کہا: پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی عقد میں کیوں دی تھی؟
یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹا تھا۔

ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت برا آدمی تھا اور ضعیف تھا۔
امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ برا آدمی تھا اور اس میں حد درجہ شیعیت
پائی جاتی تھی۔

امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ منکر الحدیث تھا۔

جواب نمبر 2:

دراصل معترض نے اعتراض تو نقل کر دیا ہے لیکن خود مصنف نے اس
روایت کے آخر میں جو اس اعتراض کا جواب دیا ہے، معترض نے اسے نقل نہیں کیا۔

امام ابو العباس احمد بن عبد اللہ بن محمد محب الدین الطبری رحمہ اللہ
(ت 694ھ) فرماتے ہیں:

قُلْتُ: قَتَلَ وَاحِدَةً فَلِمَ زَوَّجَهُ الثَّانِيَةَ؟

الرياض النضرية في مناقب العشرة: ج 3 ص 11 الفصل السادس في خصائصه

ترجمہ: (اسماعیل بن علیہ کہتے ہیں) کہ میں نے (یونس بن خباب سے) کہا: اگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کو قتل کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی عقد میں کیوں دی تھی؟ اس سے معلوم ہوا کہ یونس بن خباب کی بات قابل اعتبار نہیں ہے۔

جواب نمبر 3:

اسی کتاب میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیوں کی وفات کے بعد فرمایا: اگر میرے پاس چالیس بیٹیاں ہوتیں تو یکے بعد دیگرے ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معترض کا یہ اعتراض غلط ہے۔

امام ابو العباس احمد بن عبد اللہ بن محمد محب الدین الطبری رحمہ اللہ (ت 694ھ) روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَوْ كَانَ عِنْدِي أَرْبَعُونَ بِنْتًا لَزَوَّجْتُ عُثْمَانَ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ."

الرياض النضرية في مناقب العشرة: ج 3 ص 11 الفصل السادس في خصائصه

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتیں تو یکے بعد دیگرے ان کی شادی عثمان (رضی اللہ عنہ) کے ساتھ کر دیتا یہاں تک کہ کوئی بھی باقی نہ رہتی۔

اعتراض نمبر 16: حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو مارنا

مورخ حسین بن محمد بن الحسن الدیلمی رحمہ اللہ (ت 966ھ) لکھتے ہیں:
وَأَمَرَ غُلَمَاءَهُ فَصَرَبُوهُ حَتَّى وَقَعَ لِحْيَتُهُ وَأُغْمِيَ عَلَيْهِ وَزَعَمُوا أَنَّهُ قَامَ
بِنَفْسِهِ قَوَاطِي بَطْنَهُ وَمَذَا كَيْرُهُ حَتَّى أَصَابَهُ الْفَتْقُ وَأُغْمِيَ عَلَيْهِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ
فَقَضَّاهَا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ.

تاریخ الخمیس: ج 2 ص 271 الطعن الثانی عشر

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ماریں۔ چنانچہ انہوں نے اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ خدام نے سمجھا کہ وہ خود بخود کھڑے ہو جائیں گے اس لیے انہوں نے پاؤں سے روندنا (تاکہ اٹھ نہ سکیں) یہاں تک کہ ان کا پیٹ اور اعضائے پوشیدہ زخمی ہو گئے اور چار نمازوں کے وقت کی بقدر وہ بے ہوش رہے۔ افاقہ ہونے کے بعد انہوں نے نمازوں کی قضا کی۔

اعتراض:

اس روایت کے پیش نظر اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو اپنے غلاموں کے ذریعے بہت زیادہ مارا۔

جواب نمبر 1:

یہ مبالغہ آمیز باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح واقعہ وہ ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں مذکور ہے جسے ذکر کیا جاتا ہے۔

امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ العنسی الکوفی رحمہ اللہ (ت 235ھ)

روایت نقل کرتے ہیں:

حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَهْمٌ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرِ، قَالَ: أَنَا شَاهِدٌ هَذَا الْأَمْرِ، قَالَ: جَاءَ سَعْدٌ وَعَمَّارٌ فَأَرْسَلُوا إِلَى عُثْمَانَ أَنْ ائْتِنَا، فَإِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَذْكُرَ لَكَ أَشْيَاءَ أَحَدَثْنَاهَا، أَوْ أَشْيَاءَ فَعَلْتُمَهَا، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَنْ أَنْصِرْ فُوا الْيَوْمَ، فَإِنِّي مُشْتَغَلٌ وَمِيعَادُكُمْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى أَشْرَنَ، قَالَ أَبُو حُصَيْنٍ: أَشْرَنَ: أَسْتَعِدُّ لِحُضُورِ مَتَكُمْ. قَالَ: فَأَنْصَرَ سَعْدٌ، وَأَبَى عَمَّارٌ أَنْ يَنْصَرَ، قَالَهَا أَبُو حُصَيْنٍ مَرَّتَيْنِ، قَالَ: فَتَنَّا وَلَهُ رَسُولُ عُثْمَانَ فَضَرَبَهُ، قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعُوا لِلْبِعَادِ وَمَنْ مَعَهُمْ، قَالَ لَهُمْ عُثْمَانُ: مَا تَنْقُمُونَ مِنِّي؟ قَالُوا: نَنْقُمُ عَلَيْكَ ضَرْبَكَ عَمَّارًا، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ: جَاءَ سَعْدٌ وَعَمَّارٌ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِمَا، فَأَنْصَرَ سَعْدٌ، وَأَبَى عَمَّارٌ أَنْ يَنْصَرَ، فَتَنَّا وَلَهُ رَسُولٌ عَنْ غَيْرِ أَمْرٍ فَوَلَّى اللَّهُ مَا أَمَرْتُ وَلَا رَضِيتُ، فَهَذِهِ يَدِي لِعَبَّارٍ فَلْيُضْطَبِرْ، قَالَ أَبُو حُصَيْنٍ: يَعْنِي يَقْتَضُ.

مصنف ابن ابی شیبہ: ج 21 ص 316، 317 رقم الحدیث 38846 کتاب الفتن

ترجمہ: حصین بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو فہر کے جہم نامی ایک شخص نے مجھے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ میری آنکھوں دیکھا ہے کہ حضرت سعد اور حضرت عمار رضی اللہ عنہما تشریف لائے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس تشریف لائیں تاکہ ہم چند چیزوں کی نشاندہی کریں جو آپ نے نئی ایجاد کی ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف اپنے قاصد کے ذریعے پیغام بھیجوا یا کہ آج آپ واپس لوٹ جائیں، میں مصروف ہوں، آپ فلاں دن آجائیں، میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے گئے لیکن حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ ابو حصین نے انہیں دوبار کہا (لیکن وہ نہ مانے) تو حضرت

عثمان رضی اللہ عنہ کے قاصد نے انہیں پکڑ کر مارا۔ چنانچہ (ایک دن معترضین و بلوائی) جب اکٹھے ہو کر آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم مجھ سے کس چیز کا انتقام لیتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ آپ نے عمار رضی اللہ عنہ کو مارا ہے، ہم اس کا انتقام لیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سعد اور عمار رضی اللہ عنہما آئے تھے، میں نے انہیں واپس لوٹ جانے کا کہا تھا۔ چنانچہ سعد رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے اور عمار رضی اللہ عنہ نے جانے سے انکار کر دیا تو قاصد نے انہیں مارا تھا۔ اللہ کی قسم! نہ میں نے مارنے کا حکم دیا تھا اور نہ ہی میں اس پر راضی تھا۔ لہذا یہ ہے میرا ہاتھ عمار رضی اللہ عنہ کے سامنے، وہ چاہیں تو مجھ سے قصاص لے لیں۔

روایت بالا سے معلوم ہوا کہ نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مارا تھا اور نہ ہی مارنے کا حکم دیا تھا اور نہ ہی مارنے کا حکم دیا تھا اور نہ ہی وہ اس پر راضی تھے۔

جواب نمبر 2:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نہ ہی مارا تھا اور نہ ہی مارنے کا حکم دیا تھا۔ مصنف اسی عبارت کے بعد اس کی تردید بھی کر رہے ہیں۔

چنانچہ مورخ حسین بن محمد بن الحسن الدیار بکری رحمہ اللہ (ت 966ھ) آگے لکھتے ہیں:

أَمَّا صَرْبُ عُمَارٍ فَسَيَاقُ هَذِهِ الْقِصَّةِ لَا يَصِحُّ عَلَى هَذَا النَّحْوِ الدِّيَنِي رَوَوْهُ بَلِ الصَّحِيحُ مِنْهَا أَنَّ غُلَمَانَهُ صَرَبُوا عُمَارًا وَقَدْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَمْرِهِ لِأَنَّهُمْ عَاتَبُوهُ فِي ذَلِكَ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ بِأَن قَالَ: جَاءَ هُوَ وَ سَعْدٌ إِلَى الْمَسْجِدِ وَأَرْسَلَا إِلَيَّ أَنِ اتَيْنَا، فَإِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُنْذِرَكَ أَشْيَاءَ فَعَلْتُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِمَا إِنِّي عَنْكُمَا الْيَوْمَ مَشْغُولٌ فَأَنْصَرِفَا وَمَوْعِدُكُمَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَأَنْصَرَفَ سَعْدٌ، وَأَبِي هُوَ أَنْ يَنْصَرِفَ فَأَعَدْتُ إِلَيْهِ الرَّسُولَ فَأَبَى ثُمَّ أَعَدْتُ

إِلَيْهِ فَأَبَى فَمَتْنَا وَلَهُ رَسُولِي بِغَيْرِ أَمْرٍ حَىٰ قَوْلَ اللَّهِ مَا أَمَرْتُ وَلَا رَضِيْتُ بِصَرْفِهِ، فَهَذِهِ
يَدِي لِعَمَارٍ فَلْيَقْتَضِ مِنِّي إِنْ شَاءَ.

تاریخ الخمیس: ج 2 ص 272 الجواب عن الطعن الثاني عشر

ترجمہ: جہاں تک حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو مارنے والے واقعہ کا تعلق ہے تو یہ واقعہ اس طرح نہیں جس طرح معترضین نے بیان کیا ہے بلکہ صحیح واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خدام نے مارا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر اس بات کی صفائی پیش کی کہ یہ میرے کہنے پر نہیں ہوا۔ چونکہ معترضین آپ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کر رہے تھے اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے عذر بیان کرتے ہوئے صحیح صورت حال یہ بیان کی کہ عمار اور سعد رضی اللہ عنہما مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے میری طرف پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم ان امور کے متعلق آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے جاری کیے ہیں۔ میں نے جواباً کہلا بھیجا کہ میں آج مصروفیت کی وجہ سے نہیں آسکتا، لہذا فلاں دن تشریف لے آئیں۔ سعد رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے لیکن عمار رضی اللہ عنہ نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے بار بار ان کی طرف قاصد بھیجا لیکن پھر بھی یہ انکار کرتے رہے۔ پھر قاصد میرے کہے بغیر ان سے الجھ پڑا۔ واللہ! نہ میں نے ایسا کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی اس پر راضی تھا (اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟)۔ یہ ہے میرا ہاتھ عمار رضی اللہ عنہ کے سامنے، اگر یہ چاہیں تو قصاص لے لیں۔

جواب نمبر 3:

معرض کا بیان کردہ یہ واقعہ غلط ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اس واقعہ کی تفصیلات میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو مارا تو ان کی انتڑیاں باہر نکل آئیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ جنگ

صفین سن 37 ہجری میں شہید ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سن 35 ہجری میں ہوئی۔ اگر اس واقعہ کو عہد عثمانی کے آخر زمانے کا بھی مانا جائے تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ اس واقعہ کے دو سال بعد زندہ رہے حالانکہ انٹریوں کے نکل جانے کے دو سال بعد اس طرح زندہ رہنا ممکن ہے۔

چنانچہ امام ابو بکر محمد بن عبد اللہ بن محمد المَعَاذِی ابن العربی المالکی رحمہ اللہ (ت 543ھ) فرماتے ہیں:

قَالُوا مُتَعَدِّينَ ، مُتَعَلِّقِينَ بِرِوَايَةِ كَذَّابِينَ: جَاءَ عُثْمَانُ فِي وَلَايَتِهِ يَمْظَالِمَ وَمَنَّا كَيْفَ، مِنْهَا: صَرْبُهُ لِعَمَّارٍ حَتَّى فَتَقَ أَمْعَاءَهُ.... هَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ سَدًّا وَمَتْنًا صَرْبُهُ لِعَمَّارٍ إِنْكَ..... وَلَوْ فَتَقَ أَمْعَاءُهُ مَا عَاشَ أَبَدًا.

العواصم من القواصم: ص 61 تا ص 64 المظالم والمنالكير التي ادعوا على عثمان

ترجمہ: معترضین نے حدود سے تجاوز کرتے ہوئے جھوٹے لوگوں کی روایت کا سہارا لے کر یہ الزام لگایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں ظلم کیے اور کئی قابل اعتراض کام کیے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو مارا جس سے ان کی انٹریاں باہر نکل آئیں۔ (میں ابن العربی کہتا ہوں کہ) یہ ساری کی ساری روایات سند اور متن کے اعتبار سے باطل ہیں۔ جہاں تک حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو مارنے کا معاملہ ہے تو یہ بات صریح جھوٹ ہے۔ (اس لیے کہ) اگر ان کی انٹریاں باہر آجائیں تو وہ کبھی بھی زندہ نہ رہتے (حالانکہ اس واقعہ کے بعد وہ کافی عرصہ زندہ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ جھوٹ ہے۔)

اعتراض نمبر 17: حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے معاملہ میں نبوت کے طرز عمل کی مخالفت کرنا

علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ (ت 748ھ) لکھتے ہیں:

قِيلَ: نَفَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الظَّائِفِ، لِيَكُونَ فِي مَشْيِهِ، وَفِي بَعْضِ حَرَكَاتِهِ، فَسَبَّهُ، وَطَرَدَهُ، فَكَزَلَ بِوَادِي "وَجِّ" وَنَقَمَ بِجَمَاعَةٍ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ كَوْنَهُ عَظَفَ عَلَى عَمِّهِ الْحَكِيمِ وَأَوَاهُ وَأَقْدَمَهُ الْهَدْيَةَ.

سیر اعلام النبلاء للذہبی: ج 3 ص 296 ترجمہ: الحکم بن ابی العاص ترجمہ: کہا جاتا ہے کہ حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف جلاوطن کر دیا تھا اس لیے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے میں یا بعض حرکات میں نقل اتاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا بھلا کہا اور ان کو جلاوطن کر دیا۔ چنانچہ وہ وادی ”وج“ میں چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بعض لوگوں نے اس بات پر گرفت کی کہ انہوں نے اپنے چچا حکم (بن ابی العاص) پر نرمی کی اور ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کو مدینہ میں واپس بلا لیا۔

فائدہ: ”وج“ طائف میں واقع ایک وادی کا نام ہے۔

اعتراض:

مذکورہ بالا روایت کی بنیاد پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں انہیں

دوبارہ مدینہ بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔

جواب نمبر 1:

حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے متعلق جلاوطنی والی روایات سند صحیح سے ثابت نہیں ہیں۔

چنانچہ علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیہ الحرانی الحنبلی رحمہ اللہ (ت 728ھ) لکھتے ہیں:

وَقِصَّةُ نَفْيِ الْحَكَمِ لَيْسَتْ فِي الصَّحَاحِ، وَلَا لَهَا إِسْنَادٌ يُعْرَفُ بِهَا أَمْرُهَا.

منہاج السنۃ لابن تیمیہ: ج 3 ص 304 بحث طرد الحکم بن ابی العاص

ترجمہ: حکم (رضی اللہ عنہ) کی جلاوطنی والے قصہ کا تذکرہ صحیح احادیث میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی سند ہے جس سے اس قصہ کی حقیقت واضح ہو سکے۔

فائدہ: علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ (ت 748ھ) نے یہ واقعہ لفظ ”قِيلَ“ سے نقل کر کے اس کے ضعف کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔

دلیل:

حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی جلاوطنی والا قصہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، عہد نبوی، عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں مکہ ہی میں رہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے تو پھر جلاوطنی کیسے بنتی ہے!

امام محمد ابن سعد ابن منیع البصری رحمہ اللہ (ت 430ھ) لکھتے ہیں:

الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ أَسْلَمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى كَانَتْ

خِلَافَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأُذِنَ لَهُ فَدَخَلَ الْمَدِينَةَ فَمَاتَ بِهَا فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ج 6 ص 5 ترجمہ الحکم بن ابی العاص ترجمہ: حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، مکہ ہی میں رہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کی اجازت کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فوت ہوئے۔

فائدہ: مذکورہ بالا حوالہ جات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اول تو حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تشریف ہی نہیں لائے بلکہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں ہی رہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کی اجازت کے ساتھ مدینہ منورہ میں مقیم ہوئے۔ لہذا ان کی جلا وطنی سے متعلق کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔

جواب نمبر 2:

بالفرض اس روایت کی صحت کو تسلیم کر بھی لیا جائے جس میں ہے کہ حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی جلا وطنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوئی تھی۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ سزا معین مدت تک کے لیے تھی نہ کہ ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے دور خلافت میں واپس مدینہ بلا لیا۔ لہذا یہ بات قابل اشکال ہی نہیں ہے۔

چنانچہ ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الاندلسی القرطبی الظاہری رحمہ اللہ (ت 456ھ) لکھتے ہیں:

وَنَفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَكْمٍ لَمْ يَكُنْ حَدًّا وَاجِبًا

وَلَا شَرِيْعَةً عَلَى التَّائِبِ وَإِنَّمَا كَانَ عُقُوبَةً عَلَى ذَنْبٍ اسْتَحَقَّ بِهِ النَّفْعُ وَالتَّوْبَةُ
مَبْسُوطَةٌ فَإِذَا تَابَ سَقَطَتْ عَنْهُ تِلْكَ الْعُقُوبَةُ بِلَا خِلَافٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ
الْإِسْلَامِ وَصَارَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَهُ مُبَاحَةً.

کتاب الفصل فی الملل والایہواء والنحل: ج 5 ص 177 الکلام فی حرب علی من حاربہ من
الصحابۃ رضی اللہ عنہم

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حکم بن العاص رضی اللہ عنہ کو (مدینہ
منورہ سے) جلا وطن کرنا حد واجب کے طور پر نہیں تھا اور نہ ہی یہ حکم ہمیشہ کے لیے
تھا۔ جلا وطنی کا حکم تو محض ایک قصور کی سزا کے طور پر تھا جس کے وہ (حکم بن العاص
رضی اللہ عنہ) مستحق قرار پائے تھے۔ توبہ میں چونکہ بڑی وسعت ہوتی ہے اس لیے
جب انہوں نے توبہ کر لی تو ان سے وہ سزا بائفاق اہل اسلام ساقط ہو چکی اور تمام روئے
زمین ان کے لیے مباح قرار پائی۔ (اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ان کو واپس
مدینہ بلانا درست ٹھہرا)

اعتراض نمبر 18: بنو امیہ کو اور اپنے قریبی رشتہ

داروں کو عہدے دینا

اعتراض:

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے تمام عہدے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر کے اقرباء پروری کی ہے۔

(شیعہ مصنف) جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر المعروف حلی (ت 726ھ) لکھتے ہیں:

قَسَمَ الْوَلَايَاتِ بَيْنَ أَقَارِبِهِ.

منہاج الکرامۃ فی معرفۃ الامامۃ: ص 66

ترجمہ: (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے) عہدے و مناصب اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیے۔

جواب نمبر 1:

ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے تمام عہدے داروں کے نام اور ان کے قبائل کو ذکر کرتے ہیں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ ان پر ”اقرباء پروری“ کا الزام کس قدر بے بنیاد ہے!

ذیل میں اس کی فہرست پیش کی جاتی ہے۔

نمبر شمار	نام	قبیلہ	جائے تقرری
1	خالد بن العاص	بنو مخزوم	والی مکہ
2	عبد اللہ بن عمرو الحضرمی	بنو کنندہ	والی مکہ
3	علی بن ربیعہ	بنو عبد شمس	والی مکہ

4	عمر و بن العاص	بنو سہم	والی مصر، اسکندریہ
5	عقبہ بن عامر	جہنی (انصاری)	والی مکہ
6	زید بن ثابت	بنو خزرج	قاضی مدینہ
7	قاسم بن عبد اللہ بن ربیعہ	بنو ثقیف	والی طائف
8	یعلیٰ بن امیہ	بنو تمیم	والی صنعاء یمن
9	عبد اللہ بن عامر	بنو عبد شمس	والی بصرہ
10	عبد اللہ بن مسعود	بنو ہزیل	قاضی و خازن کوفہ
11	عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح	بنو عامر	والی مصر
12	عبد اللہ بن ارقم	بنو زہرہ	ناظم بیت المال
13	عبد اللہ بن ابی ربیعہ	بنو مخزوم	والی جند
14	عبد اللہ بن سوار العبدی	بنو عبد	والی بحرین
15	سعد بن ابی وقاص	بنو زہرہ	والی کوفہ
16	اشعث بن قیس	بنو عدی (کندی)	والی آذربائیجان
17	سعید بن قیس	بنو عدی	والی رے
18	عثمان بن ابی العاص	بنو ثقیف	والی بحرین و یمامہ
19	ابو الاعور عمرو بن ابی سفیان	سلمی	والی اردن
20	ابو الدرداء	انصاری	قاضی دمشق
21	ابو موسیٰ اشعری	اشعر	والی کوفہ
22	جریر بن عبد اللہ بجلی	بحیلہ	والی قرقرسیا
23	حذیفہ بن یمان	بنو مازن	سالار آذربائیجان
24	حبیب بن مسلمہ	بنو فہر	سالار قنسرین

25	حکیم بن سلامہ	حزامی	والی موصل
26	خنیس بن خبیش	اوس	معلوم نہ ہو سکا
27	جابر بن عمر المزنی	مزنی	محصل خراج (عراق)
28	خارجہ بن حذافہ	بنو عدی	محاسب مصر
29	شریح بن حارث	کندی	قاضی کوفہ
30	سبرۃ بن عمرو	عنبری	والی یمامہ
31	سلمان بن ربیعہ	باہلی	سالار آرمینیا
32	سماک بن مخرمہ انصاری	بنو اسد	معلوم نہ ہو سکا
33	سائب بن الاقرع	بنو ثقیف	والی اصفہان
34	عبد اللہ بن قیس	بنو فزارہ	معلوم نہ ہو سکا
35	عبد الرحمن بن خالد	بنو مخزوم	والی حمص
36	عتیبہ بن النہاس	البحلی	والی حلوان
37	علقمہ بن حکیم الکلتانی	بنو کلتانہ	والی فلسطین
38	عتقاع بن عمرو	بنو تمیم	سالار کوفہ
39	مغیرہ بن شعبہ	بنو ثقیف	والی کوفہ (آذربائیجان)
40	کعب بن سور	ازدی	قاضی بصرہ
41	مالک بن حبیب	یربوعی	والی ماہ
42	نُسَیرُ البَحْلِی	بحلی (انصاری)	والی ہمدان
43	معاویہ بن ابی سفیان	بنو امیہ	والی شام
44	مروان بن حکم	بنو امیہ	والی بحرین (کاتب)
45	ولید بن عقبہ	بنو امیہ	والی کوفہ

46	سعید بن العاص	بنو امیہ	والی کوفہ
47	حبیش	بنو اسد	والی ماسبذان

مذکورہ بالا تفصیلی فہرست ان 47 افراد کی ہے جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں اہم عہدوں پر فائز رہے تھے۔ ان میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اعزہ واقارب میں سے صرف چھ افراد ہیں جن کی تفصیل یہ ہے:

بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے رشتہ دار:

- 1: حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ (ماں شریک بھائی)
- 2: حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ (چچا زاد)
- 3: حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ (چچا زاد)
- 4: مروان بن حکم (چچا زاد)

بنو امیہ کے علاوہ دیگر رشتہ دار:

- 1: حضرت عبد اللہ بن عامر رضی اللہ عنہ (ماموں زاد)
- 2: حضرت عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ (رضاعی بھائی)

47 افراد میں سے صرف چھ افراد اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں اور وہ بھی ایسے حضرات ہیں جو ان عہدوں کے حقیقتاً مستحق تھے، ان کے علاوہ 41 عہدیداران دیگر قبائل سے ہیں۔ بھلا کوئی عقلمند اس کو اقرباء پروری میں شمار کر سکتا ہے؟

فائدہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اپنی اولاد 9 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ ان 9 بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھی عہدہ نہ دینا اس بات کی دلیل ہے وہ مناصب کی تقسیم میں بہت محتاط تھے۔

9 بیٹوں کے نام یہ ہیں: عبد اللہ، عبد اللہ الاصغر، عمرو، خالد، ابان، عمر، ولید،

سعید، عبد الملک

امام ابو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن الجوزی رحمہ اللہ (ت 597ھ) نقل کرتے ہیں:

كَانَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ: عَبْدُ اللَّهِ مِنْ رُقَيْيَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ الْأَصْغَرُ أُمُّهُ فَاحِشَةُ
بِنْتُ غَزْوَانَ وَعَمْرُو وَخَالِدٌ وَأَبَانُ وَعُمَرُ وَمَرْيَمُ أُمُّهُمْ أُمُّ عَمْرِو بِنْتُ جُنْدُبٍ
مِنَ الْأَزْدِ وَالْوَلِيدُ وَسَعِيدٌ وَأُمُّ سَعِيدٍ أُمُّهُمْ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْوَلِيدِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ
أُمُّهُ أُمُّ الْبَنَيْنِ بِنْتُ عَيْيَنَةَ بِنِ حِصْنٍ وَعَائِشَةُ وَأُمُّ أَبَانَ وَأُمُّ عَمْرِو أُمُّهُنَّ رَمْلَةُ
بِنْتُ شَيْبَةَ بِنِ رَبِيعَةَ وَمَرْيَمُ أُمُّهَا ثَائِلَةُ بِنْتُ الْفَرَاغِصَةِ وَأُمُّ الْبَنَيْنِ بِنْتُ
عُثْمَانَ أُمُّهَا أُمُّ وَلَدٍ.

تلخیص فہوم اہل الاثر فی عیون التاریخ والسیر: ص 109، 110 تحت ذکر اولادہ

جواب نمبر 2:

اعتراض تو تب بنتا ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ منصب و عہدہ کسی ایسے آدمی کو دیں جو اس کا اہل نہ ہو اور عہدہ محض قرابت کی بنا پر دیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے عہدے مستحق رشتہ داروں کو دیے تھے۔

جواب نمبر 3:

اگر کسی شخص میں صلاحیت کے ساتھ ساتھ تعلق قرابت بھی موجود ہو تو وہ بنسبت غیر کے منصب کا زیادہ حقدار ہے۔ آدمی قریبی رشتہ داروں کے عادات و اخلاق سے واقف ہوتا ہے اور طبائع میں باہم الفت و مناسبت ہوتی ہے۔ اس لیے اسے عہدہ دیا جاسکتا ہے۔

مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ (ت 1396ھ) لکھتے ہیں:
اس دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وزیر طلب فرمایا اس کے ساتھ

ایک قید ”مِنْ أَهْلِی“ کی بھی لگا دی کہ یہ وزیر میرے خاندان واقارب میں سے ہو، کیوں کہ اپنے خاندان کے آدمی کے عادات و اخلاق دیکھے بھالے اور طبائع میں باہم الفت و مناسبت ہوتی ہے جس سے اس کام میں مدد ملتی ہے بشرطیکہ اس کو کام کی صلاحیت میں دوسروں سے فائق دیکھ کر لیا گیا ہو، محض اقرباء پروری کا داعیہ نہ ہو۔ اس زمانے میں چونکہ عام طور پر دیانت و اخلاص مفقود اور اصل کام کی فکر غائب نظر آتی ہے اس لیے کسی امیر کے ساتھ اس کے خویش و عزیز کو وزیر یا نائب بنانے کو مذموم سمجھا جاتا ہے اور جہاں دیانت داری پر بھروسہ پورا ہو تو کسی صالح و صالح خویش کو کوئی عہدہ سپرد کر دینا کوئی عیب نہیں بلکہ مہماتِ امور کی تکمیل کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین عموماً وہی حضرات ہوئے جو بیتِ نبوت کے ساتھ رشتہ داریوں کے تعلقات بھی رکھتے تھے۔

معارف القرآن: ج 6 ص 78 تفسیر سورۃ طہ آیت نمبر 29

اعتراض نمبر 19: اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معزول کر

کے نوجوانوں کو عہدے دینا

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اکابر صحابہ کرام کو معزول کر کے نوجوانوں کو عہدے دینے شروع کر دیے تھے۔

جواب نمبر 1:

عہدہ دینے کی بنیاد صلاحیت اور معزول کرنے کی وجہ شکایت یا انتظامی معاملات ہوا کرتے ہیں جس میں عمر کو کوئی دخل نہیں ہے اور یہ بات عہد فاروقی سے ثابت ہے۔

حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر العسقلانی الشافعی رحمہ اللہ (ت 852ھ) فرماتے ہیں:

وَأَسْتَعْمَلُهُ [أَيَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ] عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى إِمْرَةِ
الْبَصْرَةِ بَعْدَ أَنْ عَزَلَ الْمُعَاوِيَةَ.

الاصابہ فی تمییز الصحابہ: ج 2 ص 1112 ترجمہ عبد اللہ بن قیس بن سلیم ترجمہ : حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو وہاں کا عامل بنایا تھا۔

فائدہ:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ (جب کہ ان کی عمر تقریباً 45 سال تھی) کو معزول کیا تھا اور ان کی جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ (جب کہ ان کی عمر مختلف اقوال میں آخری قول کے مطابق تقریباً 35 سال تھی) کو متعین کیا تھا۔

جواب نمبر 2:

کس شخص کو حاکم بنایا جائے اور کس کو معزول کیا جائے، یہ امور عام افراد کی سمجھ میں نہیں آتے بلکہ اسے خلیفہ ہی جان سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اقدامات بھی اسی قبیل سے ہیں۔

امام ابو بکر محمد بن عبد اللہ بن محمد المعافری ابن العربی المالکی رحمہ اللہ (ت 543ھ) لکھتے ہیں:

أَلْوَلَايَاتُ وَالْعَزَلَاتُ لَهَا مَعَانٍ وَحَقَائِقُ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ.
العواصم من القواصم: ص 243 نکتہ للولايات والعزلات معانٍ وحقائق
ترجمہ: حکام کے متعین کرنے اور معزول کرنے میں کئی مقاصد و حقائق ہوتے ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں سمجھ سکتے (مطلب یہ ہے کہ ان تقاضوں کو خلیفہ وقت ہی صحیح معنوں میں سمجھ سکتا ہے)

جواب نمبر 3:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت (23 ہجری تا 35 ہجری) کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ جو صحابی، عہد نبوی میں چالیس برس کا ہو گا، وہ اس زمانے میں لازمی طور پر 60-65 سال کا ہو چکا ہو گا۔ اس وقت ضرورت اس چیز کی تھی کہ نوجوان نسل کو آگے لایا جائے تاکہ تیزی سے پھیلتی ہوئی سرحدوں کا موثر اور مضبوط انتظام کیا جائے۔ یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنا تجربہ اس نسل تک منتقل کیا اور پھر اس نسل نے ذمہ داریاں سنبھال لیں اور بزرگ صحابہ کرام ان کی نگرانی کرتے رہے، یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حسن تدبیر کی دلیل ہے نہ کہ اعتراض کی بات ہے۔

اعتراض نمبر 20: بیعت رضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے

سماعِ صلوٰۃ و سلام کی نفی کی دلیل ہے

صلح حدیبیہ کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مشرکین کے پاس مذاکرات کے لیے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام پر بیعت لے لی، حالانکہ وہ اس وقت زندہ تھے۔ ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی بھیجتے ہوں گے اور اہل السنۃ والجماعۃ کے عقیدہ کے مطابق درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش بھی ہوتا ہو گا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید سمجھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیعت لی۔ پتہ چلا کہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا۔ اگر پہنچتا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بیعت نہ لیتے۔

جواب نمبر 1:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ صبح کی نماز کے بعد پہنچی، ابھی ظہر کی نماز قضا ہی نہیں ہوئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے آئے۔ جب اس دوران انہوں نے کوئی نماز ادا نہیں فرمائی اور نہ ہی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کعبۃ اللہ کا طواف کرنا مناسب سمجھا۔ تو درود شریف کس طرح پڑھا ہو گا؟ اس لیے ان کا درود شریف پڑھنا معترض ثابت کر دے تو سماعِ صلوٰۃ و سلام ہم ثابت کر دیں گے۔

جواب نمبر 2:

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی

شہادت کی خبر سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا کرتے ہیں؟ اگر درود شریف پہنچا دیا جاتا تو امتحان؛ امتحان نہ رہتا۔

جواب نمبر 3:

یہ واقعہ وفات سے پہلے دنیا کی زندگی کا ہے جبکہ منکرین سماع صلوٰۃ و سلام کا اختلاف وفات کے بعد قبر شریف میں درود شریف سننے کے متعلق ہے۔ لہذا اس واقعہ کو بطور استدلال پیش کرنا درست نہیں ہے۔